

ازدواج دراهم

آیت‌الله مشکینی



ذکر مفتاح الامانت

مکتبہ حسن علی



حسن علی کتب خانہ

بڑا نام بارگاہ کھار اور
کراچی پوسٹ کوڈ 74000 : 2433055
E-mail: hassanalibbookdepot@yahoo.com

વક़्ફ

આ કિતાબ હાજી મહમુદઅલી ભાઈ
અલીભાઈ સુંદરજી "સોમાસોક"
તનનરીવ માડાગાસ્કારવાળા તરફથી
તેમના મરહુમ સગાવહાલાઓની
રહોના સખ્તયાબ અર્થે
વક़્ફ કરવામાં આવેલ છે.
લાભ લેનાર ભાઈ બહેનો મરહુમોની
અરવાહોના સયાબ અર્થે એક
સુરએ ફાતેહા પઢી બક્ષી આપે
એવી નમ્ર અરજ છે.

ازدواج در اسلام

تألیف

آیت اللہ مشکینی

یکے از مطبوعات

دین الشفیق الامیت کا پاک نسخہ
بے - ۵/۲ - ناظم آباد - نمبر ۲ - کراچی



ترتیب

۱۱

۱۵

مقدمہ باب اول

۱۵	فصل ①	اسلام میں شادی بیاہ کی ترتیب
۳۱	۲	شادی اور طلاق کے معاملات میں مصالحت
۳۵	۳	شادی رزق میں اشاذ کا سبب بنتی ہے
۴۹	۴	بہترین مرد اور بہترین عورتیں اور ان میں کے بدترین
۶۲	۵	مریض مرد اور مریض عورتیں باہم مسادی
۷۵	۶	لڑکیوں کی شادی میں تائیز نہ کر
۸۸	۷	عورت مرد کے لیے کسوٹی اور آنماش بے
۹۰	۸	عورت اور مرد شادی سے پہلے ایک دوسرے

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	ازدواج در اسلام
تألیف	آیت اللہ مشکینی
ترجمہ	محمد خالد فاروقی
صحیح و تتمییب	سید سعید حیدر زیدی
کتابت	سید جعفر صادق
ناشر	دارالشقائق الاسلامیہ پاکستان
طبع اول	رجب المجب ۱۴۲۳ھ، دسمبر ۱۹۹۳ء
طبع دوم	ذی الحجه ۱۴۲۸ھ، اپریل ۱۹۹۸ء

۱۶۳	فضل	۱۸) عورت کی عفت کی خفاظت
۱۶۴		۱۹) نامحرم کو دیکھنا
۱۵۹		۲۰) چھ سال سے بڑی لڑکی کو پیار کرنا اور اسے.....
۱۶۱		۲۱) میاں بیوی کے حقوق

۱۶۵

باب سوم

۱۶۵	فضل	۱) شوہر کے فرائض مرد کے ذمہ عورت کے حقوق
۱۶۹		۲) ہم خوابی
۱۷۲		۳) خواک، بس اور دوسرے لوازم
۱۷۶		۴) عرب دینا، تکلیف نہ دینا اور رکام تسلیم کرنا
۱۸۷		۵) عورت کی بداخلانی پر تحمل کرے
۱۸۹		۶) بیوی کے بارے میں بے جاگیرت کا انہصار نہ کرے
۱۹۰		۷) خود کو اپنی بیویوں کے لیے آراستہ کرو.....
۱۹۲		۸) خوش کلام بخو، بات چیت میں لطافت سخن.....
۱۹۳		۹) اپنی بیوی کو معروف کا حکم دو اسے منکر سے روکو
۱۹۵		۱۰) بیوی کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم نکر و.....
۱۹۶		۱۱) اگر لڑکی تولد ہو تو بیوی کو تنگ نہ کرو.....

۲۰۱

باب چہارم

۲۰۱	فضل	۱) عورت کے فرائض شوہر کے بارے میں
۲۰۵		۲) خود کو پاک صاف رکھے

۶۲	فضل	۹) مناسب رشتے کو رد نہ کرو
۶۶		۱۰) شرابی اور بد اخلاق آدمی کو اپنی لڑکی نہ دو

۷۰

باب دوسم

۷۰	فضل	۱) بمحاری رفیقہ حیات الیہ ہونی چاہیے
۸۲		۲) عورتوں کی کمی قسمیں ہیں
۸۵		۳) ایسی عورتوں سے دور رہنا، ہی اچھا ہے
۸۸		۴) عورت کے مال و جمال کو نہ دیکھو
۹۰		۵) لڑکوں کو شرکی حیات کے انتخاب کے لیے.....
۹۱		۶) شادی سے پہلے دعا
۹۲		۷) شادی کی رات
۹۷		۸) ولیمہ
۹۷		۹) مہر
۱۰۴		۱۰) عورت کے مہر پر تجاوز
۱۰۸		۱۱) ولیمہ کے لیے جہیز
۱۱۱		۱۲) رات کو شادی دن میں ولیمہ
۱۱۵		۱۳) یہ شادیاں
۱۱۷		۱۴) بیوی سے محبت کرو اور اس محبت کا اس پر انہمار کرو
۱۱۹		۱۵) نسل کی افراد اش
۱۲۸		۱۶) بیوی کی ولادت
۱۲۹		۱۷) مرد کے لیے غیرت روا ہے عورت کے لیے غیرت روانہیں

- فضل ③ حفظ کی حفاظت کرنے والے احوال سے..... ۲۰۶
 ۴ شوہر کو تکلیف زدے، تندخو، بدزبان ۲۱۰
 ۵ خانہ داری کے فرانچ پکوان، دھلانی ۲۱۲
 ۶ شوہر کا احترام کرے اور اس کے ساتھ اچھی طرح بیٹھئے ۲۱۴
 ۷ شوہر کے سوا کسی اور کے لیے خود کو آستن نہ کرے ۲۲۰
 ۸ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں تصرف نہ کرے ۲۲۱
 ۹ بیوی اور بچوں پر توجہ دینے میں اعتدال ۲۲۳
 ۱۰ حورت کی تادیب ۲۲۴

باب پنجم

- فضل ① بچوں کی پرورش
 ۱۔ اچھانام رکھنا
 ۲۔ خفتہ کرنا

- ۲۲۶
 ۲۲۶
 ۲۲۶
 ۲۳۰
 ۲۳۲
 ۲۳۲
 ۲۳۵
 ۲۳۲
 ۳۔ رو رہ پلانا
 ۴۔ دودھ پلانے والی کیسی ہو۔
 ۵۔ آداب سکھاؤ
 ۶۔ محبت و شفقت سے پیش آئے

باب ششم

- فضل ① طلاق

طلاق ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے۔ ۲۷۸

۲۵۳	<u>ضمیمه</u>
۲۵۳	○ گانا اور آلاتِ موسیقی
۲۵۳	اس کی نذرت یہ بہت سی آیات و روایات آئی ہیں
۲۶۰	حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ارشادات
۲۶۱	حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ارشاد
۲۶۲	حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد
۲۶۲	حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات
۲۶۴	حضرت امام موسی بن جعفر علیہ السلام کے ارشادات
۲۶۸	○ قمار
۲۶۸	یہ شیطانی کام قرآن و حدیث کی رو سے سخت شے
۲۶۵	○ شراب
۲۶۶	ارشاد رب العرّت ہے
۲۶۷	حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات
۲۶۷	امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات
۲۸۳	حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ارشاد
۲۸۷	حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشادات
۲۸۵	حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات
۲۸۷	حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے ارشادات
۲۹۰	حضرت امام رضا علیہ السلام کے ارشاد
۲۹۰	تنبیہ
۲۹۱	

- ۲۹۲ ارشادِ رب العزت ہے
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات
 ۲۹۳ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات
 ۲۹۴ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد
 ۲۹۵ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشادات
 ۲۹۶ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات
 ۲۹۷ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد
 ۲۹۸ حضرت امام رضا علیہ السلام کے ارشادات

— ہنر —

گرانہ تخفہ

اُن لوگوں کی خدمت میں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خاندان نظام کے لیے اسلام نے کون سے حیات بخش اور سعادت آفریں اصول وضع کیے ہیں۔
 اُن لوگوں کے نام جو خاندان نظام کے بارے میں اسلام کے متعکم ولچکدار اعینت اور پرکشش نظام العمل سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں۔
 اُن لوگوں کے لیے جو آئینِ الیہ پر عمل کر کے خود کو اور اپنے افراد خاندان کو ایسے اندازو میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں جن کو آسان انسان کہا جائے اور جنہیں زین پر بنے والے فرشتوں کا نام دیا جائے۔

یہ بدیری اُن لوگوں کی نذر ہے، جو اپنے رشتہداروں اور اپنے دُرو و قریب کے متسلقین کو استغفارت فکر، فضیلت اخلاق اور کردار کی درستی کا کوئی تخفہ دینا چاہتے ہیں۔
 اُن لوگوں کی خدمت میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اصولوں کی برکت سے اپنے خاندان کو علوی و فاطمی خاندان کی طرح نشوونما دینا چاہتے ہوں اور اس طرح اس عظیم اسلامی معاشرہ کی صلاح و فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جو ان خاندان اکاکیوں سے مل کر بتا ہے۔

اور بالآخر ایسے تمام اشخاص کے نام جو اسلام کو اپنی خاندانی اور داخلی زندگی کا مطابق بنانا چاہتے ہیں، اور تقویٰ اور انسانی شرافت کے ساتھ اور ہمارت و پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

”اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں
اور کنیزیوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام
کرو کہ اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و رکم
سے انہیں مدد ارباب دے گا۔“

(سورہ نور ۲۳۔ آیت ۳۲)

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً

”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تھارا
جو ڈرامتھیں میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمھیں اس سے
سکون حاصل ہو اور پھر تھمارے درمیان محبت اور محنت
فتدار دی ہے

(سورہ روم ۳۰۔ آیت ۲۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُهْتَدِمَہ

عزیز قارئین!

بعد سلام عرض ہے کہ یہ کتاب جواب کے زیر مطالعہ ہے آج سے
وس سال قبل لکھی گئی تھی۔ اور اس زمانے میں لوگوں کے خیالات، انکار اور ان کی
نفسیات ایک ناص طرز کی تھی اور اس وقت کے ماحول پر ایک درسری ہی روشن کو
غلبہ حاصل تھا اور وہ افراد جس ماحول کے زیر اثر تھے اس کے کچھ اور ہی تفاصیل تھے۔
رائق الحروف یہ نہیں کہہ سکتا کہ مضایں کی تالیف و ترتیب، دلائل و استاد
او متعلقة روایات و آثار کے نقل کرنے میں اس سے کوئی تصور اور کوتاہی نہیں ہوئی۔ یہ
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کے اکثر انکار اور نازبان کچھ
دوسرے موصوعات کی جانب متوجہ رہے۔ اور بعض مضایں کے بارے میں تو ان کے
اندر کم سے کم دلچسپی بھی موجود نہ تھی۔ محقق یہ کہ اس دور میں اذبان و خیالات پر
سادگی غالب تھی جس کی بنا پر تالیف و تصنیف اور تقاریر و خطبات میں ایک طرح

کی کوتاہی آگئی۔

رائم المرؤت کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ اس کی کتابیں اور تالیفات اپنے بعض پیلوؤں میں کوتاہی اور شنگی سے خالی نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں میری سابق تحریریں گزشتہ علمائے اسلام اور علمائے تشیع کی ان کتابوں کی طرح ہیں جن کا تعلق تاریخ، فضائل، موانع، اخلاق اور عبادات سے ہے اور جن میں روایات کی اسناد اور ان کی صحت و سقم کے بارے میں گھری تحقیق سے کام نہیں لیا گیا۔ مطالب و مضانیں کے بیان کرنے میں بھی گھرائی، آئندہ پیش آنے والے حالات، رائج قوانین اور عقلی اصول و ضوابط کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ الفاظ کی بات تو یہ ہے کہ سابق دور کے مصنفین میں سے اکثر نے صرف فرمومی احکام کے استنباط اور اصل حشرپول سے رجوع کر کے حلال و حرام کا تین کرنے کے لیے اسناد کی جانب پڑتاں پر توجہ دی اور ان مصنفین اور محققین کا تعلق فقہاء اسلام سے ہے اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ان فقہاء نے ناقابل برداشت زحمتیں اٹھائیں اور بے حد محنت و مشقت سے تحقیق و تصنیف کا کام انجام دیا۔

اس موقع پر مختصرًا میں یہ عرض کروں گا کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند سال قبل میں نے یہ عزم کریا تھا کہ اپنی بعد کی تالیفات میں ایک دوسرانداز افتخار کروں گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اپنی سابق تالیفات پر بھی نظر ثانی کروں گا۔ یہ کتاب جو آپ کے پیشوں نظر ہے، پہلی کتاب ہے جس پر میں نے نظر ثانی کی ہے اور میری آرزو ہے کہ سب سے پہلے اسے حضرت ولی العصر (ہماری جانیں ان پر فدا ہوں) کی مبارک نظروں میں قبولیت حاصل ہو اور اس کے بعد ان دوستوں روشن نگار اصحاب اور جوانوں کے نزدیک یہ کتاب پسندیدہ قرار پائے جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے اور جن کی روح پاکیزہ اور جن کے قلوب نور سے منور ہیں اور جو

دینی فرافش ادا کرنے اور اسلام کی سیدھی راہ پر چلنے اور قرآن کے کتب فکر سے وابستہ رہنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔

یہاں یہ بتا دیا بھی ضروری ہے کہ اس کتاب میں غیر اسلامی دنیا کے غدری اور دانشمندوں کے ان نظریات سے تعریف نہیں کیا گیا ہے جو زیر بحث موصوفات سے تعلق رکھتے ہیں۔ البتہ یہ کتاب دینی معارف، اسلامی حقائق اور حیات بخش اسلامی ہمہ کو نہ آن مجید اور اہل بیت طاہرینؑ کی زبان سے نہایت دل کش اور سادہ انداز میں پیش کرتی ہے۔

آخر اس میں کیا براہی ہے کہ ایک طالب کمال کے سامنے مطلوبہ حقائق مشکل کیے جائیں اور وہ معارف جمال کو اور حسن مسلم کو سادہ لباس میں دیکھ کر۔ کیا عبارتیں مضانیں رمطاب کو ظاہر کرنے والی نہیں ہوتیں، کیا الفاظ ایسید نہیں ہوتے جو مفہوم کو واضح اور روشن طریقے پر پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قرآن مجید آسان ترین اور سادہ ترین عربی عبارات میں نازل کیا گیا ہے اور اہل بیتؑ کی احادیث فضاحت و بلاغت کے ساتھ سادہ اور روان الفاظ میں تحریر کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اس ایسید اور ازرسد کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ آپ اسلامی بدست میں تک سیدھے اور نزدیک تر راستے سے نہیں۔ اسے تعالیٰ آپ کو اور سبھی عمل کی تونیت عطا فرمائے۔ آمین۔

۱۴ ربیعہ ۱۴۰۰ھ

۱۳۵۹/۲/۲

”علی مشکین“

باب اول

فصل — ۱

اسلام میں شادی بیاہ کی ترغیب

نکاح کرنا اسلام میں مستحب موقود ہے لیکن بعض دحیرہ کی بنای پر اس کا
واجب قرار پانا بھی ممکن ہے۔ اگر ازدواجی زندگی ترک کرنے کی بنای پر نہ اور ایسے
ہی دوسرے گناہوں میں متلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس سورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَأَنِّكُحُوا الْأَبَاءِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُتَّارًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس گھرانے سے زیادہ نہ ہے۔“
نہیں ہے جو مسلم ہو اور انہی ازدواجی زندگی کی وجہ سے آباد ہوتے
نیز آپ نے فرمایا:
”شادی بیاہ کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن دوسرا امتوں کے مقابلے
میں اپنی امت لی کر شر پر فخر کروں گا۔“
”قیامت کے دن اولاد مال باپ کے لیے اس قدر فائدہ مند
ہو گی کہ جس پتے کامال کے شکم ہی میں استفاط ہو گیا ہو وہ
روٹھا ہوا جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا۔ اس سے
جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ وہ کبے گا جب
تاک میرے ماں باپ مجھ سے پہلے جنت میں قدم نہیں
رکھیں گے میں جنت میں داخل ہوں گا۔“ ۲۷

توضیح :

استفاطِ حمل کی مختلف صورتیں ہیں اور سہر صورت کا علیحدہ حکم ہے۔
مندرجہ ذیل صورتوں پر غور کیجیے:
(الف)۔۔۔ پتے حلال ہو، اور اس کا استفاط غیر اختیاری اسباب و
حوادث کی بنابری واقع ہونے کے باپ اور ماں کی رضامندی سے۔
اس صورت میں جو نکہ ماں باپ کو حضور صماں کو بڑی اذیت
اور مصیبت سے روچاہونا پڑتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ماں باپ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝ (سورہ نور (۲۴) آیت ۳۲)
”تم عورتوں اور مردوں میں سے جو مجدد ہوں اور مختارے لوٹنے والی
غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ محتاج و
غیریب ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا اللہ
بڑی وسعت والا اور دانہ ہے۔“
نیز ارشادِ ربانی ہے:

”وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا تَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً ۝“

(سورہ روم (۳۰) آیت ۲۱)
”اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تھاے
لیے مختاری ہی جنس سے ہمسر بنا یا تاکہ وہ مختارے لیے سکون
کا سبب بنے اور مختارے درمیان الفت و رحمت پیدا
کر دی۔“

پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”شادی بیاہ کرو، تم میں سے جو مجدد ہوں ان کا عقد کر دو۔
مسلمان کی خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ وہ شوہر رکھنے
والی عورت کو کسی رشتہ ازدواج میں باندھ دے۔“

کے لیے جو گناہ کا رہوں اور عذاب کے مستحق ہوں ان کے بخوبی شفاعت کا وسیلہ بنادے گا۔

اگر ماں باپ کا جرم قابل معافی ہو، یعنی ان کی سرکشی اور ان کے گناہ کا تلقین فروع دین سے ہونے کا اصولی دین سے تو اس صورت میں امید ہے کہ بتیے ان کی نجات کا سبب بن جائے۔ لیکن کذاکہ اصولی دین کے بارے میں سرکشی یعنی کفر قابل شفاعت نہیں ہے۔

(ب) — دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ تو حلال کا ہو لیکن اس کے سقط اس کا سبب ماں باپ نہیں بلکہ دوسرا شخص ہو جیسے ظاہر و غیرہ، اس صورت میں سلوک اور بچہ کے ساتھ فرشتوں کا معاملہ اور اپنے ماں باپ کے لیے بچہ کی شفاعت پہلی صورت ہی کی طرح ہوگی۔ البتہ اس صورت میں بتیے اپنی جان کا دعویٰ کرے گا اور قاتل کے خلاف فریادی بنے گا۔ ایسا اس صورت میں ہو گا جب کہ اسقاط عمدہ اور ظالم کے طریقہ پر عمل میں آیا ہو۔

الہ بنت گل کی روایات میں آیا ہے کہ روزِ حشر عدالتِ الہی میں سب سے پہلا مقدمہ جو پیش کیا جائے گا وہ قتل نفس اور خون ناجن کا مقدمہ ہوگا اور قتل نفس کی سزا آخرت میں ہمیشہ کی قید اور دنیا میں اس کی سزا فصاص یادیت کا ادا کرنا ہے، جیسا کہ فقہاء نے اپنی فقہی کتب میں دیات کے باب میں اس کے احکام درج کیے ہیں۔

(ج) — بچہ تو حلال کا ہو لیکن اس کا اسقاط باپ اور ماں میں سے کسی ایک کے یادوں کے ہاتھوں عمل میں آیا ہو۔ آخرت میں ان ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا روایت میں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے، البتہ ساقط شدہ بچہ خور ماں باپ کے

خلاف اپنا مقدمہ دار کرے گا۔ اور انہیں عدالتِ الہی میں کھینچ کرے جائے گا اگر ان کی نجات کے کچھ دوسرے اسباب موجود نہ ہوں تو انہیں ابدی قید خانے کی سزا بھلکتی ہوگی۔

دنیا میں اسلامی احکام کے مطابق اگر قاتل باپ ہو تو اس پر لازم ہو گا کہ وہ دیت بچے کی ماں کو ادا کرے اور اگر ماں ہو تو اسے دیت باپ کو دینی ہوگی۔ اگر بچے کے قاتل ماں باپ دونوں ہی ہوں تو انہیں مل کر بچے کے قریبی رشتہ داروں کو دیت ادا کرنی ہوگی جیسے دادا کو یا بھائی وغیرہ کو۔

بہر حال قاتل کو "کفارہ جمع" "بھی او اکرنا ہو گا (کفارہ جمع یعنی مسلسل دو ماہ روزے رکھنا، سامنہ فقر ارکو رکھانا کھلانا اور اگر ممکن ہو تو ایک غلام آزاد کرنا)

(د) — بچہ حرام کا ہو، عورت مرد اپنی مرضی سے زنا کے مرتبہ ہوئے ہوں —

بلاشبہ روایت میں اس صورت کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورت میں بچہ جتنی ہو گا۔ یہ صورت قابل غور ہے۔ احتمال یہ ہے کہ ایسے انسان کی جگہ اعراض ہو گی (کہ ماں نے عذاب ہے اور زاغماں) غلب یہ ہے کہ وہ بہتی قرار پائے۔

اس طرح کے ماں باپ کا یہ بچہ، ظاہر ہے ان کے لیے وسیة شفاعت تو نہیں بنے گا بلکہ ان کے خلاف عدالتِ الہی میں شکایت کرے گا اور انہیں ہمیشہ کی قید میں سمجھوانے کا سبب بنے گا، جیسا کہ تم نے اوپر لکھا ہے۔

چنان تک ایسے بچے کے اسقاط کے جائز ہونے کا سوال ہے تو زیادہ تری بات یہ ہے کہ اس کا اسقاط حرام ہے اور یہ قتل نفس کی حیثیت رکھتا ہے

خواہ یہ اس قاطع مال باب کے ہاتھوں عمل میں آئے خواہ طاکٹر کے ہاتھوں۔ اسلامی ممالیات کے مطابق اس پچے کا قصاص بیاجا ناچائیے یادیت مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوئی چاہیے۔ اس مسئلہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ چشم پوشی سے کام بیاجائے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے :

”اگر شادی بیاہ کے لیے ائمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم صادر نہ کبھی ہوتا تب بھی ترغیب کے لیے وہی فوائد کافی ہوتے جو ائمہ تعالیٰ نے ازوایجی زندگی کے اندر رکھے ہیں۔ جیسے رشتہ داروں کے ساتھ یہی کرنا اور غیروں کے رشتہ و تعلق قائم کرنا۔ یہ فوائد ایسے ہیں جو عالمیہ دوں اور اپنی بھلانی چاہئے والوں کو نکاح کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت کافی ہوتے۔“ ۱

پیغمبرِ سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

”اپنے مجرد مردوں کا عقد کرو تو تاکہ ائمہ تعالیٰ ان کے اخلاق کو اچھا بنادے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے اور ان کی جوانمردی کو بڑھادے۔“ ۲

حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے :

”پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن منظعون

کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھتے ہوئے فرمایا: میری سنت سے منہ نہ پھیڑ، اس لیے کوچ شخص بھی میری سنت سے اخراج کرے گا، قیامت کے روز فرشتے اس کا راست روک لیں گے اور اسے میرے حوض کی طرف نہ آنے دیں گے۔“ ۳

حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شفعت خدا ترسی میں اس قدر غرق ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے بالکل بے خوبی اختیار کر لی ہے اور لذیذ نذاروں کو بھی ترک کر دیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

آپ نے جواب میں فرمایا :

”جہاں تک بیوی کا تعلق ہے تم سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن سے بخوبی آگاہ ہو۔ نہذَا کا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت بھی تناول فرماتے تھے اور شہد بھی۔ ائمہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو لوگ خدا پر اور یوم جزا پر ایمان رکھتے ہیں (اوکیثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں) ان کے لیے پیغمبرؐ کی زندگی بہترین اسوہ ہے۔“ ۴

ایک عورت امام ششم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس

۱۔ م ابوبالقدمات ب ۱ خ ۹

۲۔ م ب ۳۲ خ ۲۷

۳۔ ح ۱۰۳ - ص ۲۶۳

۴۔ ح ۱۰۳ - ص ۲۲۶

نے عرض کیا :

”اَنَّهُنَّ مِنْ اَنْفُسِهِنَّ اَنَّهُنَّ مُجْهَلَةٌ مِّنْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ اَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ“
میں ایک تارک الدنیا عورت ہوں۔“

آپ نے سوال پختہ میا :

”ترکِ دنیا سے تیری کیا مراد ہے۔۔۔؟“

اس نے جواب دیا :

”میں نے شادی نہیں کی ہے۔۔۔؟“

آپ نے دریافت فرمایا :

”تو نے ایسا کیوں کیا۔۔۔؟“

اس نے جواب دیا :

”احبہ و ثواب کی خاطر۔۔۔؟“

آپ نے اسے واپس جانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:
”اگر کنوا رہنا کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو فاطمہ
زہرا سلام اللہ علیہا خاتون اسلام سب سے زیادہ اس کی
سرماوار ہوتیں جبکہ فضائل میں زہرا پر کوئی سبقت نہیں
لے جاسکتا۔۔۔ لہ“

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”ایک عورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا۔ عورت پر شوہر کا حق کیا ہے؟“

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شوہر کا حق بتایا۔
عورت نے سچھر سوال کیا۔ عورت کا حق مرد پر کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایسا باس
اسے دے کر وہ بربنہ نہ رہے۔ ایسی نذراً دے کر وہ
جب جو کی نہ رہے۔ اگر وہ غلطی کرے تو عنود درگزر سے کام
میں۔ اس عورت نے پوچھا کیا اس کے علاوہ عورت کا
کوئی حق مرد پر نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: نہیں۔
یہ جواب سُن کر اس عورت نے کہا۔ خدا کی قسم میں کبھی
شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس آنے کا حکم دیا۔ وہ پڑت
کر آئی تو فرمایا: اَنَّهُنَّ مِنْ اَنْفُسِهِنَّ اَنَّهُنَّ مُجْهَلَةٌ مِّنْ اَنْفُسِهِنَّ
کرنا عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ (یعنی وہ شادی کریں تاکہ
ان کی آبرو محفوظ رہے) البتہ آیت ایک دوسرے مقام کے
یہ نازل ہوئی یکین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد
کے لیے اسی آیت سے استشهاد فرمایا۔۔۔ لہ

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہبا نیت دنیا سے منع فرمایا
ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

”اسلام میں رہبا نیت نہیں ہے۔ تم لوگ شادی
بیاہ کیا کرو۔ میں دوسری امنوں کے مقابل تھاری عددی

و جزو میں لاتے ہیں جو خیر و برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور جس کی ثقیلی خدمات میں سے ایک کا تعین نیک اولاد کو پروان چسٹر ہنا ہے اور اس سے بڑھ کر بھلانی کا کام اور کون سا ہو سکتا ہے۔

اسی بہترین خدمت کے نتیجے میں ان پر ان کی اولاد اور ان کی نسلوں پر اور ان کی پوری احتمالی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ :

”جب کسی مومن مرد اور عورت کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا جاتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے ان کے عقد کا اعلان کچھ اس طرح کرتا ہے :
اے فرشتو! سنو! اللہ تعالیٰ نے فلاں خالوں کا فلاں مرد کے ساتھ عقد کر دیا۔“ ۱۷

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

”جب کوئی شخص اپنی جوانی کے اخاذ میں شادی کرتا ہے تو شیطان کی فریاد بلند ہوتی ہے، با کے افسوس مائے افسوس کا اس نے اپنے روپ تھا ان دین کو میرے شر سے محفوظ کر دیا۔“ ۱۸

لہٰذا اب سے اپنے باقی ایک تھانی دین کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔

۱۷۔ م۔ ابواب المقدمات ب ۱ خ ۱۲
۱۸۔ ج ۱۰۳ ص ۲۲۱۔ ثو۔

اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑے اجر و ثواب کا ذکر کیا ہے جس سے مرد محروم ہے۔ اور وہ کثیر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورتوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے جو ایک طویل مدت تک حمل کی رحمت برداشت کرتی ہیں اور بھر و پفع حمل کی بھی۔ ان کے لیے روزہ دار اور نام ازگزار کا ثواب رکھا گیا ہے۔ اور اگر وہ اس حال میں حلت کر جائیں تو ان کی فوت کو رام حق میں شہادت قرار دیا گیا ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :
”آسمان کے دروازے چار موقتوں پر کھولے جاتے ہیں باش کے وقت، اس وقت جب فرزند محبت و تھریانی سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، جب خاز کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور جب کسی کان کا ح پڑھا جاتا ہے۔“ ۱۹

توضیح :

آسمان کے دروازے کھوئے جانے سے مراد لوگوں پر پروردگارِ عالم کی رحمت کا نازل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اس وقت بھی نازل ہوتی ہے جب بیٹا پنے باپ کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے اور اپنے بہترین جذبات کا اظہار کرتا ہے اور اس کے دانش منداز اور اسلامی بذریات و احکام کو احسان نیکی اور اطاعت کی روح کے ساتھ سجا لاتا ہے۔ پھر اللہ کی یہ رحمت اس وقت بھی نازل ہوتی ہے جب دو مسلمان اور احسانِ ذمدادی رکھنے والے انسان عقد و مناکت کی نیا درکھل رکھ لفعت و محبت کا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں اور ایک ایسے غاذان کو

نیز آپ نے ارشاد فرمایا:

”نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے من پھیرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔“^۱

آپ نے یہی ارشاد فرمایا:

”جو شخص بھی شادی کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو پاسیتا ہے۔ اب اسے اپنے باقی آدھے دین کے بارے میں اشہ ننانی سے ڈرنا چاہیے۔“^۲

توضیح:

بلاشبہ شادی بیاہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں بندھ جانے والے بے قید آزادی، ناجائز تعلقات اور اخلاقی و حبی بے راہ رویوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور یہی بات دوسرا تمام گناہوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ مختلف اجتماعی اور شخصی پہلوؤں کو پیش نظر کر کے کہا جا سکتا ہے کہ شادی اور بیاہ کا عمل آدھی بڑائیوں اور گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے اور کبھی اس سے زیادہ سے بھی۔

اسی لیے بعض روایات میں نکاح کو نصف دین کی حفاظت کا ذریعہ اور بعض دوسری روایات میں دو تہائی دین کی حفاظت کا ذریعہ تباہی گیا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا:

”شادی کرنا، ختنہ، مسوک اور عطر لگانا میری

۱۔ ج ۱۰۳۔ ص ۲۲۰ ج ۱

۲۔ ج ۱۰۳ ص ۲۱۹ م ۱

ستنوں میں سے اور مجھ سے پہلے کے پیغمبروں کی ستتوں میں
میں سے ہے۔“^۱

”شادی آنکھوں اور شرمنگاہ کی عصمت و عفت کی
بہتر طریقے پر حفاظت کرتی ہے۔ اور پاکد امنی اختیار کرنے
کا یہ سب سے سمحہ اور موثر ذریعہ ہے۔“^۲

”جو شخص بھی نکاح کرتا ہے، آدھی خوش نسبی
حاصل کرتیا ہے۔“^۳

توضیح:

میاں بیوی میں سے ہر ایک کی زندگی دو حصوں میں ٹھی ہوتی ہے۔ ایک حصے کا تعلق داخلی اور خاندانی روابط سے ہے اور دوسرے کا خارجی اور اجتماعی روابط سے۔ ایک نیک عورت مرد کی زندگی کے نصف حصے کی بہبود کا میابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور ایک نیک مرد اپنی بیوی کے روابط زندگی میں سے نصف روابط کو بہتر بنانے اور سنوارنے کا ذریعہ نہیں ہے۔

دوسری روایت میں بھی تقریباً یہی بات فرمائی گئی ہے۔ اسی لیے شادی معاشرتی فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں میاں بیوی دو نوں ہی کے لیے معاون مد و گار تابت ہوتی ہے۔

اسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف دین سے تبریز فرمایا۔

۱۔ م۔ ابواب المقدمات ب ۱

۲۔ اور ۳۔ م۔ ابواب المقدمات ب ۱

”جو بھی شادی کرتا ہے عبادت میں سے نصف حائل
کر لیتا ہے“ ۱۷

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے :

”نوجوانو! تم میں سے جو بھی قدرت رکھتا ہو وہ شادی
کر لے۔ تاکہ تھاری نگاہیں عورتوں کی طرف نہ لجیں
اور تھارا دامن زیادہ سے زیادہ پاک رہے“ ۱۸

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :

”شادی کرو، شادی کرنا پسیہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سنت ہے۔ انحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو
شخص بھی میری سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ سمجھ لے کہ
شادی کرنا میری سنت ہے“ ۱۹

پسیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”میں نے تھاری دنیا سے سب سے بخوبی اور عورت کے
کوئی چیز پسند نہیں کی ہے“ ۲۰

نیز آپ نے فرمایا :

۱۷۔ ج ۱۰۳ ص ۲۲ حند

۱۸۔ م۔ اباب المترمات ب ۱۱

۱۹۔ مکتب ۶ و ج ۱۰ ص ۹۳ ل تریب مند و فید (فان رسول اللہ کثیراً ما کان یقول) ۲۱

۲۰۔ م۔ ب ۱۱

”اللہ تعالیٰ کو اسلام میں کیے جانے والے شادی کے معابر
سے زیادہ اور کوئی معابرہ پسند نہیں ہے“ ۲۱

آپ نے فرمایا :

”اس بات میں کوئی رکاوٹ اور دشواری نہیں ہے کہ
ایک مومن شخص شادی کرے اور اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا فرزند
خطاف رہا جو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَرَّمُهُ
اسٹھے اور پوری زمین کو اس کھنے سے معور کر دے۔“ ۲۲

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جو شخص بھی میری فطرت (دینِ فطری) پر رہنا چاہتا ہے
اسے میری سنت پر چلنा چاہیے۔ میری سنتوں میں سے ایک سنت
شادی ہے۔“ ۲۳

فصل ۲

شادی اور طلاق کے معاملات میں مصالحت

شادی اور اس کی تیاری کے امور میں مصالحت کا فرضیہ الجام دینا اور طرفین

۲۴۔ م۔ ب ۱۱ ۷ و ج ۱۰ ص ۲۲۶ الحدایہ و فید (استرض التزویج)

۲۵۔ م۔ ب ۱۱ ۳

۲۶۔ م۔ ب ۱۱ ۱

کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنا مستحب ہے۔

سیفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”جو شخص بھی کسی مومن مرد اور عورت کی شادی کرانے کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو کر زندگی اپسرا کریں، اس مقصد کے لیے وہ جو دم بھی اٹھائے گا اور وہ جو لفظ بھی زبان سے نکالے گا اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔“ ۱۷

حسن بن سالم کہتے ہیں :

”حضرت موسی بن جعفر نے اپنی پچی کے نام ایک خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ آپ کے پاس جو رقم رکھی ہوئی ہے اسے آپ محمد بن جعفر کے گھر والوں کے لیے بھیج دین تاکہ وہا سے ہماری کا دادی بھی کے لیے استعمال کر سکیں۔ جب اس خاتون نے اس خط کو پڑھا تو اس نے بلا تامل وہ رقم اٹھا کر میرے حوالے کر دی۔

اس خط کا متن یہ تھا :

”اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سایہ فراہم کرے گا جس کے نیچے کوئی شخص جگد نہیں پاسکے گا بھر بھی کے یا اس کے وصی کے یا ایسا شخص جس نے کسی مومن نلام کو آزاد کیا ہو یا جس نے کسی مومن کا قرضہ ادا کر دیا ہو یا جس نے کسی بیوی نے رکھنے والے مومن کی شادی کر دی ہو۔“ ۱۸

امام صادق علیہ السلام نے سنجاشی (اہواز کے حاکم) کو لکھا :

”ہر دو شخص جو اپنے مومن بھائی کے لیے ایک ایسی رفتہ رفتہ فراہم کرتا ہے جو اس کی زندگی میں اس کی معافی و مددگار بنتی ہے اور اسے آسائش فراہم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ایک حواس کے سطے میں عطا فرمائے گا اور اسے ان لوگوں کی دوستی اور رفاقت عطا فرمائے گا جن کو وہ دوست رکھتا ہے جیسے سیفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیت اور اس کے مومن بھائی۔ ان سب کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دے گا۔“ ۱۹

حضرت علیؑ کا ارشاد ہے :

”سب سے بڑی چوری حاکم کی کسی بات کو چرانی بھے (یعنی اس کی کسی بات کا اس کے منشا کے خلاف مفہوم اخذ کر کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے استغفال کرنا)، اور سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ کر لینا ہے۔ اور بہترین مصالحت وہ ہے جو شادی بیوہ کے معاملات طے کرانے کے لیے کی جائے۔“ ۲۰

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

۱۷ م ب ۱۱ خ / ۲۸ - ص ۲۵ کتاب الغیۃ

۱۸ م ب ۱۱ خ / ۱ - وقوله افضل الشفقات ”الج فی - و - ب ۲۱ خ“

و فی البحار ج ۱۰۳ - ص ۲۲۶ غا - بتذکرات یسیر فی المنظ

"جو شخص بھی کسی کنوارے کی شادی کرے گا اللہ تعالیٰ
قیامت کے روز اس پر رحمت کی نظر ڈالے گا" ۱۷

نیز آپ نے فرمایا :

"قیامت کے روز اللہ تعالیٰ چار طرح کے افزاد پر اپنی توجہ
کی خاص نظر ڈالے گا۔ (۱) وہ شخص جو اپنے فتنی مخالفت کو
جب سرمندہ اور پیشان دیکھے گا تو درگز رے کام لے گا۔
(۲) وہ شخص جو کسی عزم زده دل کا بوچھہ بلکا کارے گا (۳) وہ
شخص جو کسی علام کو آزاد کرے گا۔ (۴) وہ شخص جو کسی کنوارے
کی شادی کرے گا۔" ۱۸

امام فہم سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں :

"قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہو گا تین
طرح کے اشخاص عرشِ الہی کے سایہ میں ہوں گے :
(۱) وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی شادی کرے گا۔
(۲) اور وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی خدمتگار
فراتم کرے گا (۳) وہ شخص جو اپنے بھائی کا راز فاش نہ کرے" ۱۹

پنیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

۱۷۔ د۔ب ۲۱ خ ۱۔ ج ۷۔ ص ۲۹۸ کا

۱۸۔ د۔ب ۲۲ خ

۱۹۔ د۔ب ۲۲ خ ۲۔ ج ۵۔ ص ۷۱

"ہر وہ شخص جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالے گا
وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غنیمہ اور لعنت کا ہفتہ گا" ۲۰

فصل ۳

شادی رزق میں اضافے کا سبب ہوتی ہے

وَتَرَأَّنْ مُجِيدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى نَعْلَمْ نَعْلَمْ فَرَمَى بَهْ كَانَ نَعْلَمْ نَعْلَمْ عَلَامُونْ
اوْلَوْنَدُوْنَ کی شادی کردو، وہ فقیر و محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں
غُنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت و فراخی رکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔

پنیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

"شادی کرو تو ناک مختارے رزق میں اضافہ ہو۔" ۲۱

توضیح :

شادی بیاہ کا رزق میں اضافے کا سبب نہنا در وجہ سے ہے۔ ایک
درج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کیمے ہونے وعدہ کے مطابق مرد اور عورت دونوں کی
غیب سے مدد فرمائے گا۔

رزق میں اضافے کا دروس سبب یہ ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں شرکت
ازدواج میں مسلک ہو کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان میں ایک طرح کی بدیری

۲۰۔ د۔ب ۱۲ خ ۵۔ ج ۷۔ ص ۳۶۸۔ ثو قریب منه لفظ و مسئلہ مدن۔

۲۱۔ د۔ب ۱۲ خ ۵۔ ج ۱۰۳۔ ص ۷۱۶۔

پیدا ہوتی ہے، ان کی عاقبت اندیشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا ایک خاندانی نظام تشكیل دیتے ہیں، ان میں زندگی کی فلاح و بہبود کا حذبہ اجھڑتا ہے، پھر وہ اپنے اخراج کو کنٹرول کرنے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ وسائل معاش کی تیاری اور فراہمی کی جانب توجہ دیتے ہیں، بے جا خرچ اور سرافت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے وسائل زندگی میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور ان کی غربت اور افلام روز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل قدرتی بات ہے۔ اس باب میں جو میری حدیث بیان کی گئی ہے اس کا منشائجی یہی ہے:

”چون شخص بھی افلام کے خوف سے شادی نہیں کرتا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں بدگانی کرتا ہے کہ اگر لوگ خوبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انھیں عنی نباد گے۔“ ۱

”رزق میں اضافے کے لیے شادی کرو۔ عورت برکت کا باعث ہے۔“ ۲

اسحاق بن عمار کا بیان ہے:

”میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تبلدستی کی شکایت کی۔ رسول اکرم نے فرمایا

شادی کرلو، دوسرا بار بھی اس نے یہی شکایت کی، آپ نے دوبارہ فرمایا: شادی کرو، تیسرا بار بھی آپ نے یہی فرمایا۔ آیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حضرت صادقؑ نے فرمایا: یاں یہ حدیث صحیح ہے، رزق یہی اور بچوں کے ساتھ وابستہ ہے۔“ ۱

حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
”ایک شخص نے پیغمبر کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تبلدستی کی شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شادی کرلو، وہ شخص گیا اور اس نے شادی کر لی اور پھر رزق کے دروازے اس پر کھل گئے۔“ ۲

امام ششم کا ارشاد ہے:

”ایک انصاری جوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے فقر کا حال بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شادی کرلو۔ اس انصاری کو اس بات سے بڑی شرم آئی کہ وہ دوبارہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حاجت کا ذکر کرے۔ مدینے

کے ایک الفصاری مسلمان نے اس سے ملاقات کی اور کہا:
میری لڑکی بانی ہو چلی ہے اگر تم چاہو تو میں اسے تھمارے عقد
میں دے دوں۔ وہ نوجوان آمادہ ہو گیا اور اس نے شادی
کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کشادہ کر دیا۔ ایک روز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
اس نے سارا فقہہ بیان کیا جحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ اے جوانو! ازدواج چیز زندگی اختیار کرو۔“ اے

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”شادی کو روزی حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔“ ۲۷

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
”اے جوانو! تم میں سے جس کی بھی سکت ہے وہ
شادی کرے اور جو سکت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے،
کیونکہ روزہ شہوت کو گھٹاتا ہے۔“ ۲۸

فصل ۳

بہترین مرد اور بہترین عورتیں ورانیں کے بذریں

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملنا
چاہتا ہے کہ وہ پاک اور یا یہ ہو تو سوت کے وقت اس کا
عقد نکاح نبہ دھا ہوا ہونا چاہیے۔“ ۲۹

امام صارق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”شادی شدہ مرد کی درکعت نماز کنوارے شخص کی
ست رکعت نمازوں سے بہتر ہے۔“ ۳۰

نیز آپ نے فرمایا:

”ایک شخص میرے والد محترم کی خدمت میں حاضر
ہوا۔ حضرت نے اس سے دریافت کیا۔ کیا تمحاری بیوی ہے؟
اس نے جواب میں عرض کیا۔ جی نہیں۔ مچھر آپ نے فرمایا
ایک رات مجرد رہنے کے بعد اگر مجھے ساری دنیا بھی دے
دی جائے تو میں قبول نہ کروں۔ مچھر میرے والد نے اس

۲۷ د-ب ۱۰ خ ۴

۲۸ د-ب ۲ خ ۱/ج ۱۳ ص ۲۱۹ ثو

۱۔ د-ب ۱۰ خ ۱

۲۔ م-ب ۱۰

۳۔ سحرالانوار ج ۱۰۳ ص ۲۲۰

شخص کو سات دینار دیے اور فرمایا: یہ درہم نوا اور انھیں اپنی شادی پر صرف کرو۔ ۱۷

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”دوزخیوں میں سے اکثر کافلہ کنواروں سے ہے۔“ ۱۸

نیرآپ نے فرمایا:
”تھمارے مرنے والوں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو کنوارے ہیں۔“ ۱۹

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”امت کے بدترین افراد کافلہ کنواروں ہے۔“ ۲۰

”تم میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو کنوارے ہیں، اور یہ شیطان کے بھائی ہیں۔“ ۲۱

”میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو شادی شدہ

۱۷۔ د۔ ب ۲ خ ۷

۱۸۔ د۔ ب ۲ خ ۳

۱۹۔ د۔ ب ۲ خ ۳

۲۰۔ م۔ ب ۲ خ ۲

۲۱۔ م۔ ب ۲ خ ۲ ۱۰/۶

ہیں اور میری امت میں سے بدترین لوگ کنوارے ہیں۔“ ۱۶

توضیح:

منتذر کردہ احادیث ایک اسلامی مسئلہ پر مبنی ہیں جیسا کہ دوسری روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ نیک عمل خواہ چھوٹا ہی کبھی نہ ہو اگر وہ تقویٰ اور گناہوں سے بچ کر کیا جائے تو وہ زیادہ موثر اور زیادہ نفع بخش ہوتا ہے اور حساب میں بھی اسے زیادہ شمار کیا جاتا ہے، جس طرح دوا کی مقدار پورے پر میری کے ساتھ استعمال کی جائے تو وہ یقیناً نفع بخش ثابت ہوگی۔ اس کے بر عکس اگر نیک عمل کے ساتھ گناہ بھی کیے جاتے رہیں تو انہیں یہ ہے کہ وہ نیک عمل پوری طرح ضائع ہو جائے گا یا اس کا اثر کم ہو جائے گا اور اس سے بہت کم فائدہ پہنچے گا۔ جیسے کوئی مریض دوا تو استعمال کرے لیکن پرہیز نہ کرے۔

اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک کنوارے شخص کا نیک عمل گناہ سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ یا کہ ازم اس کا نیک عمل خطرے اور گناہ کی زد میں رہتا ہے اس لیے وہ کسی شادی شدہ شخص کے عمل سے قدر و قیمت میں کم ہوتا ہے۔

اس کے تیجے میں باطنی اور روہانی اعتبار سے اس کنوارے شخص کا مقام کمتر ہو جائے گا۔ کیونکہ جب اس کے اچھے کاموں کا اس کے بڑے کاموں کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا تو یہ معلوم ہو گا کہ اس کے بعض اچھے کام بڑے کاموں کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں۔

تامہم یہ بات عمومیت کی بنا پر کمی کی ہے زکر کسی ایسے حکم کلّی کی بنا پر جس کے لیے کوئی استثناء نہ ہو

اللہ تعالیٰ نے مختنث مردوں اور مرد نما عورتوں پر لعنت بھیجی ہے اسی طرح ان مردوں پر بھی جو عورتوں سے کنا رہ کشی اختیار کر لیں۔ کیونکہ بروش حضرت بھی عبیدہ اسلام کے بعد منوخ کی جاچکی ہے۔ ۳۷

توضیح :

مختنث سے مراد ایسا شخص ہے جو قوم لوٹ کے بڑے عمل میں گرفتار ہوئیں تو طبی بن جائے اور مرد نما عورتوں سے مراد ایسی عورت ہے جس نے ظاہری حجاب کو بھی ترک کر دیا ہوا اور اخلاقی ایمانی عفت کو بھی خیر باہمہ دیا ہوا اور وہ اس طرح کہ خود کو اپنے شوہر کا بھی پابند نہیں کیجھ تھی۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

”جو مرد اس لیے شادی نہیں کرتا کہ میں وہ صاحب اولاد نہ ہو جائے وہ قابل نفرت ہے“ ۳۷

” صالح مردوں کو اغوا کرنے کے لیے شیطان کے پاس عورت سے زیادہ کارگر کوئی متحیا نہیں، صرف شادی شدہ مرد ہی پاک و صاف (شیطانی و سوسوں سے دور) رہ سکتے ہیں۔“ ۳۷

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

۳۷ م - ب ۲ خ ۱۰/۷

۳۷ م - ب ۲ خ ۶

۳۷ م - ب ۲ خ ۲

ان مردوں اور عورتوں پر جو دین و فطرت کے اصولوں سے انحراف کرتے ہیں کہتے ہیں ”ہم شادی نہیں کریں گے۔“ لعنت بھیجی ہے۔ ۱۷

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک دنیا اور شادی سے فرار اختیار کرنے سے منع کیا ہے اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ عورت ازدواجی زندگی اختیار کرنے سے پرہیز کرے۔ ۲۷

حضرت علیؑ کا ارشاد ہے :

”پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے جو بھی نکاح نکرتا۔ حضور فرماتے : ”اس کا دین مکمل ہو گیا۔“ ۲۷

”عکاف“ کہتے ہیں :

”میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا : عکاف! اکیا تم بیوی رکھتے ہو؟ میں نے جواب دیا۔ نہیں۔ مجھ سے پوچھا: کیا تمخارے پاس لوٹدی ہے؟ میں نے جواب میں عرض کیا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تو صحت منداور مال دار ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! الحمد للہ۔ آپ نے فرمایا

۱۷ م - ب ۲ خ ۱

۱۷ م - ب ۲ خ ۲

۱۷ م - ب ۲ خ ۸

اس صورت میں تو شیاطین کا بھائی ہے یا تو تجھے ایک سیبی
راہب بن جانا چاہیے یا پھر (اگر تو مسلمان ہے) تو تجھے تمام
مسلمانوں کا ساطر عالم اختیار کرنا چاہیے۔ شادی کیا ہماری
ستنوں میں سے ایک سنت ہے۔ تم میں سے بدترین افراد
وہ ہیں جو کنوارے ہیں، مرنے والوں میں سے بدترین
کنوارے ہیں۔ عکاف تجھ پر افسوس ہے۔ شادی کر، تو
خطا کاری ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہؐ میرے
یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپؐ میرا نکاح کر دیجیے۔ آپؐ
نے فرمایا کہ شوم حسیری کی رطکی کریمہ کے ساتھ میں نے تیرا
نکاح کر دیا۔“ لے

فصل ۵

مومن مرد اور عورتیں باہم مساوی
اور ایک دوسرے کے ساتھی ہیں

﴿وَتُرَانِ مُجِيدٌ كَهْتَا بِهِ﴾

” لوگو! ہم نے سختیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور گروہ

اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سے جو
سب سے زیادہ پر ہیزگار ہے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ
معزز ہے۔“

(سورہ حجرات ۹۷ آیت ۱۳)

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں :

” اس سے زیادہ سخت مصیبت اور کوئی نہیں ہے
کہ کوئی جوان مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی رطکی سے
عقد کی خواہش ظاہر کرے اور رطکی کا باپ جواب دے
کہ مجھے معاف کیجیے آپ مالی اعتبار سے میرے ہم زندہ نہیں ہیں۔“ اسے

امیر المؤمنین سے لوگوں نے پوچھا :

” کیا یہ بات جائز ہے کہ تم عرب عورتوں کی شادی بغیر عرب
مردوں سے کر دیں؟“

آپؐ نے فرمایا :

” تم سب کے خون برابر ہیں، آبا تم تھارے فرق برابر نہیں ہے۔“
پسیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کی عورتوں کی غیر عرب مردوں
کے ساتھ شادی کر دیتے تھے تاکہ شادیوں کا معيار نیچے آئے اور دوسرے لوگ
بھی آپؐ کی پریدی کریں۔“

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”شادی میں کفوئے بے کمرد پاک دامن اور بیوی کا
حضریج پورا کرنے پر قادر ہو۔“ لہ

عبدالملک مروان کی طرف سے ایک جاسوس مدینہ میں تعینات کیا گیا
نخاجو مدنیت کی چھوٹی بڑی م تمام خبریں مرکز خلافت کو جھیختا تھا۔
حضرت سجادؑ کی ایک لوڈی تھی، آپ نے اسے آزاد کر دیا اور اسلام
کے حکم کفونکے مطابق اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جاسوس نے اموی خلیفہ کو اس کی
اطلاقیج دی۔ اس پر عبد الملک نے ایک توبخ آمیز خط امامؑ کو لکھا:

”مجھ تک پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق آپ نے
اپنی آزاد کردہ لوڈی کے ساتھ شادی کی ہے، جبکہ آپ نے
ہم رتبہ سے جس کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے ہوتا
شادی کر سکتے تھے۔ یہ بات عروت و رشت کا بھی سبب
بنتی اور اصیل و نجیب اولاد بھی حاصل ہوتی۔ آپ نے یہ
نامناسب شادی کر کے نہ اپنی بہتری کا خیال کیا ہے اور
ذاس اولاد پر رحم کھایا ہے جو آپ کے سلب میں ہے۔“

(یہ ایک ایسا خط نخجا جو ایسی روی جاہلیت کا حال نخاجو اسلام سے سحونی
ساقعن سمجھی نہ رکھتی تھی)
حضرت امام زین العابدینؑ نے جواب میں تحریر کیا:

”تیرا خط مجھ تک پہنچا۔ تو نے اس بات پر ملامت کی
ہے کہ میں نے اپنی، ہی آزاد کردہ لوڈی سے شادی کر لی ہے
تو نے یہ بھی لکھا ہے، قبیلہ قریش کی ایسی عورتی تھیں
کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا میرے لیے سر بلندی کا سبب
بھی بنتا اور اصیل اولاد کے حصول کا سبب بھی۔
تو نے غلط سمجھا! کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کے شرف اور مرتبے سے بھی اور کسی شرف اور مرتبے کا تقصیر
کیا جا سکتا ہے کہ میں شادی کر کے اس مرتبے کو حاصل
کر لوں۔ یہ لوڈی میری ملکیت میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم
کے مطابق، اجر و ثواب کے حصول کی خاطر میں نے اسے آزاد
کر دیا، پھر سنت اللہ کے مطابق میں نے اس سے نکاح
کر لیا۔ جو شخص خدا کے دین کے بارے میں مختص ہو، اس طرح
کی باتیں اس کے مرتبے اور شرف کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتیں
اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ جاہلیت کی گھٹیا اور توہینی
باتوں کو ختم کر دیا۔ یہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی اچھی طرح پریروی کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسلم
نے قریش کی معزز ترین خاتون اپنے چھپا کی لڑکی زینب کو
اپنے غلام کے عقد میں دے دیا اور اپنی لوڈی سفیہ سے جو
حی بن الخطیب بہودی کی بیٹی تھی خود نکاح کیا۔“ لہ

حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں :

”یحاء کا ایک باشندہ جس کا نام جو میر تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرفت پر اسلام ہوا اور ایک چھا مسلمان بن گیا۔ وہ ایک پست قد، بدشکل، محتج، محبوک کا نیجہ آدمی تھا۔ سوڑائیوں جیسے بھدے سے خدوخال رکھتا تھا ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سیاہ چہرے

پر رحمت و محبت کی نگاہ ڈالی اور سُنہ مایا:

”جو میر اکیا اچھا ہوتا کہ تو شادی کر لیتا تاکہ تیری خفت محفوظ ہو جاتی۔ اور تیری رفیقہ حیات دنیا اور آخرت کے کاموں میں تیری ساختی اور مددگار بنتی۔“

اس نے عین کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آخر وہ کون سی عورت ہو سکتی ہے جو میری رفیقہ حیات بنٹے پر راضی ہو، میرے حب و شب کو دیکھ کر خوش ہو یا میرا مال اور میری خوبصورتی استخوش کر سکے۔ کیا کوئی عورت مجھے اپنے دل میں جگدے سکتی ہے؟

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جو میر اکہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے زور جاہلیت کے معززین کو کبر و غور کی ملندیوں سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا اور جو لوگ کوئی قدر و نیت نہیں رکھتے تھے، انہیں عزت و مشرفت کی ملندی پر سچا دیا۔ جو ذمیں سمجھے جاتے تھے انہیں معزز کیا۔ جاہلیت کی خوت اور اپنے

بڑے قبلوں اور اپنے نسبوں پر فخر و غور کا خانہ کر دیا۔ آج تمام لوگ سفید سیاہ، قریشی اور غیر قریشی، عربی اور عجمی سب کے سب آدم کی نسل سے ہیں اور آدم سمی سے بنائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین افراد وہ لوگ ہیں جو اس کے سب سے زیادہ فرمائیں اور سب سے زیادہ پرہیز کارہیں۔

جو میر اکیا اس آج مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو تجھ سے برتر نہیں سمجھتا۔ بجز اس کے کوہ تقویٰ اور احاطت میں زیادہ ہو۔“

پھر آپ نے فرمایا:

”تم زیاد ابن لبید کے پاس جاؤ جو قبلہ نبی یا بنز کا شریف ترین آدمی ہے۔ تم جاؤ اور اسے میرا یہ پیغام سنھاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی دلفا کو جو میر کے عقد میں دے دو۔“

(زیاد نے ایک لڑکے اپنے ملند حسب و نسب کو دیکھا اور پھر اپنی لڑکی کے لیے اس رشتے پر نظر ڈالی اور حیران رہ گیا۔ پھر اس نے دل بی دل میں کہا۔ یمن نے کبھی اپنے قبیلے کی کوئی لڑکی اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے سوا کسی اور کوئی نہیں دی ہے آخر یہ کس طرح حکمن ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو جو مانیہ کے انہماں معرفہ خاندان کے اندر بڑے ناز و نعمت کے سانچہ بیٹھی ہے اسے ایک گنبد سیاہ نام اور محتاج نوجوان کے جوابے کر۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا شادبے:

”پیغمبر ائمہ علیہ وآلہ وسلم نے زیرِ بیوی کے مطلب
کی بیوی شنasse کا نکاح جو تریش کے شریعتِ زین خاندان سے
تلقین رکھتی تھیں، مقدارِ ان امور سے کہا جو نویں اور مرتبت
قیسے کے فرستھے تاکہ رشتھوں کے معاشر کو نیچے لا جائے اور
لوگ اخضھوڑ کی پیروی کریں۔ اور جان بیوی کا شنasse نزدیک
لگوں میں سب سے بڑیکے ان میں سب سے زیادہ پڑھ کر“

ہی ہو سکتا ہے ”لے“

مولیٰ ان بھی باشندوں کو کہتے ہیں بقیر مورکای کی اور جب سے مدینت
اگئے تھے اور میں رہنے لگے تھے بلفاڑ کے زمانہ میں یہ مولیٰ امیر المومنین کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

”اسے عملیٰ پیغمبرِ ائمہ علیہ وآلہ وسلم اور
بھی کے دریان کو اتنا یار کیے گئے تو مجھیں کو ماں یعنیت
میں سے ہو ہوں کے بارجھوڑ دیا کرتے تھے۔ سہان، پال
اور عجیب بُجیں مسون سے تھے، ہربُ جو تین ان کا کام
میں دی گئیں یکیں آج کے کھلام ہیں دوسروں سے کھص
و دیتے ہیں اور وہ بھی ہوں کے بارجھوڑ ہیں دیتے۔“
امیر المومنین نے ان کی شکایت فرمادی جسے بیوی اور
اس باغھانی پرستیکر ہوتے ہوئے اسلامی معاشرت کے لفڑاں پر زور دیا۔

(یا جائے)
آخر کارناڈا حقیقتیت حال معلوم کرنے کے لیے دوڑا
دوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام کرنے کے لیے دوڑا۔

”زیاد سفرا، جو پیڑ دوڑتے ایمان رکھنے والا ایک
نوجوان ہے اور ایک مومن ہوئے کافر ایک مومن مردی
ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوئے کافر ایک مسلمان مردی ہوتا
ہے۔ دوسرے انتباہات ہوتے مروکی شخصیت اور ان کے
باہم اکابر نے پردہ بارجھوڑ اپنی زانے کیں ایسا
نہ ہو تو نگہداری کے جہاں اس اک دل جوان سے اپنا سخیر
جبت زیادتے سوچ لال اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریح
حکم کو پایا تو فوراً اپنا ستریم ٹھم کر دیا۔

(تمہیریت: اسلامی کے اس پیٹے نوں سے مودوم شخصیت کا بخت
لوگ ہے گی، تھوڑی اور شرافت کو انسانی قدر قیمت کی دیشیت سے سمجھا جائے گے۔
عرب کے شریعتِ زین خاندان کی ایک اولادی کو مشکل کے ایک مغلس تین اور گناہ تین جوان
کے عقد میں دے دیا گیا۔) لے

امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں:
”مومن ایک دوسرے کے کفوادِ حرم مرتب ہیں“ لے

انسانیت کی اس مشکل ترین تھنگی کو سمجھا دیتا اور انسان بیٹت کی اس شدید ترین آرزو کو پورا کردا تھا۔ یاموس اسلام کے لیے باعثِ افتخار تھا کہ اس نے معاشروں کی بہتی کی صانت دی جو دشمن کی پیاسی اور قیادتِ ترقی کے آسمانی ہوتے کی سنبھالی۔ افسوس صد افسوس کم مھنچی بھر کر کی توز اور جادہ طلب بھر کر گروں اور بڑوں نے اسلام کے نو خیر پر کو محظا ویا در آب بیات کو کرنے اور غلیظ بانی سے بنجی کر دیا۔

صدافوں کی وہ لوگ جو خام خیال اور کرکٹ کے حوال مچھے اور جو اپنے صافیوں کی وہ لوگ جو خام خیال اور کرکٹ کے حوال مچھے اور جو اپنے کمیتی میں اپریشن مسند مایا بینظی عن الھوپی پر سلطنتوئے۔ وہ لوگ جو ۳۴۳ سال تک اسلامی تقدیمات کے زیر پر یا ہے اور اک قوم پرستی کے نامور بلند کر رہے ہیں ایسا قابل ہیں کہ ایسی کتاب کی تھیں وہی کہ دیبا پرہی "ان اکرم مکھم عن داد اللہ افتکا اکھم" ہے۔ وہ لوگ اتنی تعب نہیں کر جاس سو روز بیاست گروں کے جال میں اپر ہو چکے تھے اور جو آج تھا نقاق اور معارف دینی سے بے شہر ہیں اور جو غلط تبلیغات کے نزدیک اپنی عقل کے پر گلوں کو گلکر کچکے ہیں اور نہیں وہ کہ جن کی نسلوں کی آنکھوں پر تعلیم کا غبار تکم جما ہوا ہے۔ بکہ اتنی تعب اور قابلِ مام وہ را شس منڈ کا شہزادے ہیں کہ جانی کم عقلی کی بارہ کہتے ہیں کہ:

بیانہ اسلام نے موہون علاقہ خلافت کو شوری پر جھوڑا اور خود عالم کو خلافت کے لیے بنتے فرما دیا اور شوری سبقتہ کا فتنی صرف اکثرت کا اس میں حاضر نہ ہونا تھا۔

لیکن اپنے اس بولیت کے خلاف آوازیں گھٹنے شروع ہوئیں کہ:

"اے بالمحسن! ہم اس طرح کی سست پر غل پیرا
بیٹیں ہوں گے"

علی غضبنما کہ پر کرنا پنا امام میٹھے ہوئے مجس سے نکل آئے اور شکایت کرنے والوں کو خاطب کر کے فرمایا:

"اس قوم نے بھیں بہر دیوں اور نصرانیوں کی عصت
بیٹیں بھے دے رکھی ہے۔ تھارو گورنی سے دو شادی کرتے
ہیں بیکن اپنی نمزوں کو مختارے کے لکھ میں بھیں دیتے
یا انہاں تو تم سے وصال کر لیتے ہیں بیکن مختار احتجاج
کے تھے اور انہی کرنے میں بختارے حق میں بھر کر تھا
ہوں کہ تجارت کا بیٹھا افتخار کر۔ اللہ تعالیٰ اس میں بکت
زدے گا میں نے خود پیغمبر مسی ارشد علیہ وآلہ وسلم سے نا
بے کر روزی کے دل حصے میں اور روز حصے تجارت میں ہیں
اور اکھ حصہ دوسرا تھا کام کاموں میں۔" لہ

[شاپریصب سے غمیما دکاری صرب تیر خلافت کے اس کے اصل راستے اخراجت کے نتیجے میں پیکے اسلام پر پڑی وہ علیہ و علیہ یورپی اور صرب

قوم پرستی کا مارن تھا۔

اس کام کی اعلیٰ تدبیات نے بہترم کے امیازات کو باطل قرار دے کر لوگوں کے دلوں کو بامہ پہنچتے کر دیا تھا۔ اور علاالتِ اجتماعی کا قرار دافتہ اجرا کر کے

بھی ہوتی تو کیا اس سے مختلف افراد کا انتخاب کرتی ۔۔۔۔۔؟
آیا اس قلاش کا معاشرہ علیؑ جیسے فرد کی خلافت بولوں کرتا ۔۔۔۔۔؟
آیا آج اگر کوئی حق کی بات کہتا ہے تو وہ تہنا نہیں رہ جاتا؟ حق کی
پاسداری دین کے درمیان بھی؟
بالفاظِ مختصر یہ کہ صرف حضرت علیؑ تھے جو عرب و عجم میں تمیز روایت
نہیں رکھتے تھے اور ابتداء ہی سے نسل پرستی کی جیہنی چڑھنے والوں کی پیاہ گاہ
آپؑ اور آپؑ کی اولادِ مطہرہ ہی تھی۔]

حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:
”حج کے دوران کسی مقام پر میرے والد کی ایک خاتون
سے ملاقات ہوئی اور وہ اس کے حسنِ اخلاق سے بہت متاثر
ہوئے اور لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ خاتون شادی شدہ
ہے۔ جواب دیا گیا کہ نہیں۔ میرے والد نے اس کا حسب نسب
دریافت کیے بغیر اسے شادی کا پیغام دے دیا اور بعد میں
اسے اپنے عقد میں لے آئے۔ جب ایک انصاری کو اس
عقد کا حال معلوم ہوا تو اس قدر رسادگی سے ہوتے والی
یہ شادی اسے بڑی گزاری۔ ممکن ہے کہ یہ عورت بے صلوب
نسب ہو اور لوگوں کو انگشت نمائی کا موقع میں جائے۔ چنانچہ
وہ انصاری کچھ عرصے تک تحقیق میں مصروف رہا اور اسے
پہنچا کر یہ خاتون قبلہ شیبان سے تلقن رکھتی ہے۔ تب وہ
امام سجادؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سارے معاملے کو

آپؑ کے گوش گزار کیا (الحمد لله آپؑ کی یہ نئی رفتیہ حیات
ایک ممتاز و محترم خاندان سے تلقن رکھتی ہے)“

حضرت نے فرمایا:

”میں تجھے اس سے زیادہ عقل مند سمجھتا تھا کہ تو اس
حد تک خاندان کی شرافت کا خیال رکھتا ہے، لیکن کیا تو
نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے فضولیات
کو دور کر دیا ہے اور نقاصل کی تلافی فرمادی ہے۔ پستی اور
ذلت کو عربت و کرامت سے بدل دیا ہے۔ اب مسلمان
(خواہ وہ کسی درجے کا ہو محترم ہے) پستی و ذلت نہیں
رکھتا۔ لیکنی کافل نہیں جا بلیت سے ہے۔“ اے

فصل ۶

لطکیوں کی شادی میں تاخیز کرو

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
”آدمی کی سعادت کا ایک نشان یہ ہے کہ وہ

اے م ب ۲۲ خ ۱ وسائل مقدمات النکاح

ب ۲۴ خ ۱ - ج ۱۰۳ ص ۳۷۸ میں - قریب منه

اپنی بیٹی کو ایام حبیض سے پہلے اس کے شوہر کے گھر بخیج دے، اے

اکمہ صدی علیہم السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ:

انسان کو جن چیزوں کی مزدورت سختی وہ تمام چیزوں ایش تعالیٰ نے اس کے پیغمبر کو سکھا دی ہیں۔ ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک گئے اور ایش تعالیٰ کی حمد و شنا کے بعد فرمایا:

”لوگو! ایش تعالیٰ کی جانب سے جو تمام بھیزوں کا

جانے والا ہے۔ جب تک میرے پاس آئے اور کہا: رُطکیوں

شاخوں پر لگے ہوئے بچلوں کی طرح ہیں، ان کے پکتے ہی

انھیں توڑ لینا چاہیے ورنہ سورج کی گرمی اور ہواوں کا

چلانا انھیں تباہ کروے گا۔ جب رُطکیوں سن بنوغ کو

پہنچ جاتی ہیں تو ان کے اندر غرائز کا طوفان بیا ہوتا ہے

جس کا علاج شوہر کے سوا کسی کے پاس نہیں ورنہ مکن ہے

کہ وہ بگڑ جائیں اور آکوڈہ ہو جائیں کیونکہ وہ بھی انسان ہی

ہیں۔“ ۲۴ (جنی بیجان اپنی پوری قوت کے ساتھ

ایک ابلجت ہوئے برتن کی طرح انھیں جوش میں لاتا ہے)

رُطکیوں کی شادی جلدی کر دینے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید

آئی ہے جیسا کہ متذکرہ بالا ایک حدیث میں گز رچکا ہے۔ اس حکم کا سبب

رُطکیوں کے اخلاق کو خراب ہونے سے روکنا ہے۔ لیکن ان احادیث کے ذیل

میں رُطکی کے سین رشد کو سنبھلنے اور اس کی شوہرداری کی صلاحیت اور رُطکی کی عمر کے تناسب کا بھی لحاظ کیا جانا چاہیے۔

جو رُطکی خانہ داری کی قدرت نرکھتی ہو جماں طور پر اس نے پوری طرح نشوونگانی پایی ہو اور اس کے مزاج و طبیعت میں ابھی شادی کے یہ ضروری استعداد پیدا نہ ہوئی ہو اور اس صورت میں اس کی شادی کردی جائے تو وہی حال ہو گا جس کا خطہ اپنے اس مصروف میں ذکر کیا ہے:

”ہفتہ ای عیش و غصہ سالی چند“

”ہفتہ سبھر عیش سبھر چند برسوں کی کوفت“

آخر کار دنوں کی جانیں بت دریک گھلتی جلی جائیں گی یا بچہ علیحدگی اور طلاق کی نوبت آئے گی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ازدواجی زندگیاں آغاز کار میں حسب مراد بسر ہوں۔

اللہ اگر گھرانہ مذہبی ہو اور خاندانوں پر دینی اخلاق کی فرمانروائی ہو تو یہ ساری نامہموریاں اور یہ ریش بیان رونما نہ ہوں۔ اور طلاق کا وحشتاک عفریت ہنسنے بستے خاندانوں کو خاموش قبرستانوں میں نہیں نہ کرے۔

یہ سب کچھ مادی نہدن کا تحفہ ہے اور بذہبی طاقت کو کمر و رکر دینے کا نتیجہ ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں توجہ اور احتیاط اور نبیادوں کو مضبوط کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔

رُطکیوں میں جذبہ عفت اور خدا ترسی پیدا کرنے کی طرف توجہ دی جانی چاہیے اور گھر کی نبیاد بڑھتے ہوئے سبیلاب کی راہ میں نہیں رکھنی چاہیے۔

خاندان میں عورت مرد سے بہتر فتنتم ثابت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے خاندان کے تمام معاملات کی نگرانی اور ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔

بہر حال مرد اور عورت کا اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل میں خود کفیل ہونا اور خاندان کی سربراہی اور فرائض کے ادا کرنے کے امتحان میں اچھی طرح پورا رہنا، خاندان کے نجگان کی حیثیت سے عمدہ کردار ادا کرنا، اپنے خاندان کو دوسرے خاندانوں کے لیے منونہ بنکر پیش کرنا (کہ ایک دینی معاشرہ کی تنقیم و تکمیل کا یہی بہترین ذریعہ ہے) مرد اور عورت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔

ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو کبھی حضرت علی علیہ السلام کے خاندان کی طرح ایک خاندان تشكیل دیتے ہیں جو زہرہ السلام اللہ علیہا ہسین علیہما السلام اور زینب علیہما السلام جیسی شخصیتوں پر مشتمل ہتھا۔

اور کبھی ایوسفیان اور ایران کا پیلوی خاندان۔

غرض یہ کہ اپنی شہوائی قوت پر کمزروں حاصل کرنے کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے عفت کا لباس بن جاتے ہیں اور آزمائش کے موقع پر ثابت قدم رہتے ہیں۔

نسٹر ان مجید کا ارشاد ہے :

”هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ“
”حورتیں بمحارے عیوب کو ڈھانکنے والے لباس کی طرح ہیں اور تم مرد بھی عورتوں کے عیوب کو چھپانے والی پوٹاک کی طرح ہو۔“

فصل ۔۔۔

عورت، مرد کیلئے سوٹی اور آزمائش ہے

حضرت امام عصر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”ایک مومن مرد کا بدترین ذمہ اس کی بدلطور رنیقہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اس کی آزمائش کرتا ہے۔“ ۱۷

نیز اپنے نے فرمایا :

”چھ چیزیں مصیبیت و گناہ میں سب سے بہتے ہیں
دنیا پرستی ، جاہ پرستی ، نیند کا متوالا
ہونا ، زن پرستی (مرد کا عورت کے جال
میں چپنس جانا اس کی آزمائش اور امتحان کا ذریعہ
ہے) ، شکم پرستی اور آرام طلبی۔“ ۲۷

توضیح :

اپنے تسلط اور فطرت کی نیا پر مرد ہی خاندان کا سربراہ ہے اور وہی افراد خاندان کے معاملات اور ان کی تربیت کا ذمہ دار ہے۔ نیز خاندان کے داخلی معاملات کے ایک حصے کی ذمہ داری عورت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات کسی

فصل ۸

عورت اور مرد شادی سے پہلے
ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں

مغیث بن شبہ نے ایک عورت کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ مغیث بن اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اگر تم اس عورت کو پہلے دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ
موافق ت اور سہم آئنگی کی زیادہ امید ہوتی ہے“ ۱۷

محمد بن سلم کہتے ہیں :

”امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے پوچھا۔ اگر
کوئی شخص شادی کرنا چاہے تو کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ
وہ پہلے عورت کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں یہ حق حاصل
ہے کیوں کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے بھاری تہمت ادا
کرتا ہے۔ (آخر اسے دیکھنے کا حق کیوں نہ حاصل ہو)“ ۱۸

حسن سری کہتے ہیں :

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے

۱۷۔ و-ب ۳۶ خ ۱۳ ابواب مقدمات النکاح

۱۸۔ و-ب ۳۶ خ ۱ ابواب مقدمات النکاح

دریافت کیا، مرد کے لیے کیا یہ بات جائز ہے کہ وہ شادی
سے پہلے عورت کو سامنے سے اور پچھے سے اچھی طرح دیکھے۔
آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی امرمانع نہیں ہے کہ مرد
شادی سے پہلے عورت کو سامنے اور پچھے کی جانب سے اچھی
طرح دیکھ لے۔“ ۱۹

چھرائیک اور شخص نے آنکنڈ سے سوال کیا:

”مرد کے لیے کیا یہ بات جائز ہے کہ وہ جس عورت سے شادی
کرنا چاہتا ہے، اس کے بالوں کو اور اس کی زینت کی چیزوں کو شادی سے پہلے دیکھ لے؟“
آپ نے جواب میں فرمایا:

” بلاشبہ اگر اس کا مقصد لذت حاصل کرنا ہو (اس کی غرض صرف
عورت کے جسم کی خصوصیات سے آگاہ ہونا ہو) اس تو اس صورت میں اس کے دیکھنے
میں کوئی حرج نہیں۔“ ۲۰

ایک دوسری روایت کے مطابق لوگوں نے سوال کیا:
”کیا یہ بات عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مرد کے سامنے کھڑی ہو
جائے تاکہ وہ اسے دیکھ لے؟“

آپ نے فرمایا:

” بلاشبہ جائز ہے۔ بلکہ ایسے موقع پر عورت کے عمدہ اور نیس لباس
پہننے پر بھی کوئی امرمانع نہیں ہے۔“ ۲۱

۱۹۔ و-ب ۳۶ خ ۳ ابواب مقدمات النکاح

۲۰۔ و-ب ۳۶ خ ۵ ابواب مقدمات النکاح

ایک صحابی نے ایک عورت سے نکاح کے لیے پیشام بھیجا تھا۔ پس پرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اس عورت کے چیرے اور باخنوں کو پیلے دیکھ لو۔“

(اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کم از کم اس حدیث کی عورت کو دیکھ لینا پائیتے)

توضیح:

ان روایات کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو شادی کے لیے مختبہ کرتا ہے اور اسے عورت کی انبادر سے پسند ہو، اس کے باوجود وہ اس کی جماں خصوصیت سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اسے دیکھ سکتا ہے۔ کہیں ایسا زہو کہ اس میں کوئی جماں عجیب موجود ہو۔ جو بعد میں شرمندگی یا سردمہری یا علیحدگی کا سبب بن جائے۔ البتہ وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ کتنی لڑکیوں کو کیجے بعد دیکھے اپنی نظروں کے سامنے سے گوارے اور ان تمام کے سراپا کا جائزہ لےتا کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔

فصل ۹

مناسب رشتے کو رد نہ کرو

پس پرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”کیا میں تھیں تباذوں کہ بہترین مرد کون ہیں۔؟“

صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں، یا رسول اللہ - آپ نے

فرمایا: وہ جو پرہیزگار ہوں، پاک دل ہوں، کشاوہ

دست ہوں، ماں باپ رکھنے والے ہوں اور ماں باپ کے ساتھ
جن سلوک کرنے والے ہوں اور اپنے اہل و عیال کو دوسروں
کا محتاج نہ بنائیں یا لے۔

توضیح:

انسانی زندگی کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جو پوری ہوئی چاہئیں۔ انسان کو نہ دوا، بس اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی یہ ضرورت پوری ہوئی چاہئیے۔ اسی طرح وہ کچھ حصی تقاضے اور کچھ فکری و اخلاقی تقاضے بھی رکھتا ہے۔ ان تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضے کا تعلق جن معاشرت اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ملنے جلنے سے ہے۔ جیسے اعلیٰ طبقہ کا سچے طبقہ کو اس کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ میں تنبیہ کرتے وقت نرمی سے کام لینا اور ضروری موقع پر اپنے کی خدمات کو سراپا اپنا اور اخیں شوق دلانا اور صبر سے کام لینے کے موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا، ان سے غلطی اور کوتاہی کے صادر ہونے کے موقع پر چشم پوشی اور درگزر کارویہ اختیار کرنا، نافرمانی کے موقع پر انھیں فضیحت کرنا۔

غرض یہ کہ جن رفتار اور جن لفڑیاں کے کام لیا جائے جو تربیت، ترقی اور تکمیل کا ذریعہ بنے۔ البتہ کبھی سرزنش و ملامت سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ایک جہریان معلم کی ہے کہ وہ ہمیشہ طالب علم کی حالت پر نظر رکھتا ہے اور اس کی بھلانی و سعادت اور اس کے کمال و ترقی کے لیے کوشش رہتا ہے۔

اس طرح ضروریات کو پورا کرنا چہاں عورت کے لئے مدد و داری ہے اسی طرح مرد کے لئے عورت کی بھی ہے۔ ہر فطری خواہش کا پورا کرنا یا اس کے پورا کرنے میں کمی کرنا ضرورت مند کو غلط راہ پرے جاتا ہے اور اسے دوسروں کے ذریعے پی

ضرورت پوری کرنے پر بھروسہ رکتا ہے، ہنڑی خواہش جو علاط ذریعہ سے پوری کی جاتی ہے، وہ اپنا خاص نقصان اور خاص بکار رکھتی ہے۔ اب یہ مرد کا کام ہے کہ وہ ان حقائق سے واقعہ ہوا اور عورت کو بھی ان سے واقعہ ہونا چاہیے۔

علی بن اسbat نے حضرت امام جواد علیہ السلام کو تحریر کیا:
”مجھے اپنی لڑکیوں کے بیٹے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو
(اخلاق و ایمان میں) میری طرح ہو کہ میں انہیں اس کے عقد
میں دے دیتا۔“

حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا:
”تم نے جو کچھ اپنی لڑکیوں کے بارے میں لکھا اس سے
اگر ہی حاصل ہوئی۔ خدا تم پر رحمت کرے، لڑکی کے معاملے میں
اس قدر احتیاط کی ضرورت نہیں۔ (کہ اس کا شوہر صدقہ صد
باپ کی خواہش کے مطابق ہو) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: اگر کسی ایسے شخص کا پیغام آئے جو اپنے دین و اخلاق
کے اختصار سے پسندیدہ ہو تو اسے قبول کرو ورز زمین پر بہت
بڑا فتنہ و فساد روتا ہو گا۔“

آنے والے رشتے پر مختلف اعتراضات اور نکتہ چینیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی گھر بی میں بیٹھی رہتی ہے، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں ازدواجی زندگی گزارنے کا موسم بہار حفظت ہو جاتا ہے۔ میال بیوی کے اخلاقی روابط میں دیر

تک طفیل رہتا ہے، بالآخر نسل میں بھی (جو شادی کے درخت کا چھل ہے) ناپسندیدہ
آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا:

”اگر تیرے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے جس کے
دین و اخلاق تجھے پسند آئیں تو اسے قبول کر لے، اس کی مدد
سے مت گھبرا۔ اللہ تعالیٰ کا رشتاد ہے:
اگر (بیوی اور میال) ایک دوسرے سے علیحدہ ہو
ہو جائیں تو خدا ان میں سے ہر ایک کو اپنے کرم سے عنی بنا
دے گا۔

نیز رشتاد باری تعالیٰ ہے:

اگر رکنوارے مرد شادی کر لیں اور (مغلس ہوں) خدا اپنے
فضل سے انہیں خفی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیم اور (اپنے بندوں
کے حالات سے) باخبر ہے۔ (ان دو آیتوں کا ذکر کرنے سے
مقصور ہی ہے کہ ہر دو صورتوں میں مرد اور عورت کی روزی
خدا کے اتحاد میں ہے۔)

ابراہیم کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
”ابراہیم اکسی مومن کو اس کے مال سے ملنے والے حصوں
میں اس سے زیادہ خطرناک حصہ کوئی نہیں ہے اور اس کے

مال کو پہنچنے والے نقصانات میں اس سے زیادہ ضرر رسان کوئی نہیں ہے جو کسی بے چوپان گلے کو دوایسے وحشی بھیڑیوں سے سینچا ہے جن میں سے ایک بھیر بیا گلے کے الگ حصہ پر حمد کرتا ہے اور دوسرا اس کے پچھے حصہ پر حمد اور ہوتا ہے۔ تم ذرا اندازہ کرو یہ بھیر بیا گلے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟

میں نے عرض کی وہ سوا نے فساد پھیلانے کے اور کچھ نہیں کریں گے، اس پر آپ نے فرمایا:

”تونے درست کہا کسی مومن کے مال کو پہنچنے والا سب سے کم تر نقصان یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی لڑکی کے لیے نیام دے اور وہ یہ کہہ کر اسے رد کر دے کہ پیغام دینے والا غیرہ نادر ہے۔“

فصل ۱۰

شرابی اور مذہب اخلاق آدمی کو اپنی لڑکی ندو

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ نے شراب کو میری زبان سے حرام قرار دیا ہے جو شخص شراب پیئے گا وہ اس لائق نہیں کہ مسلمان لڑکی کا

شوہر بنے۔“

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”جس شخص نے بھی اپنی لڑکی کی شادی کسی شرابی سے کی وہ قطع رحم کا مرتب ہوا۔“ (یعنی اس نے ایک باب کی حیثیت سے اپنا فرعون ادا نہیں کیا اور لڑکی پر اس نے ظلم کیا) لئے

حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں :

”کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی شرابی کو اپنی لڑکی دے دو، اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے لڑکی کو زنا کی خاطر کسی کے حوالے کر دیا۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اگر شرابی بیمار پڑ جائے تو اس کی عبادت نہ کرو، اور اگر وہ لڑکی مانگے تو اسے اپنی لڑکی ندو۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”شرابی اس بات کا اہل نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسے لڑکی دے یا اسے اپنا مال حوالے کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنا مال ناکھجوں کے بانجھیں ندو۔“

لئے ۶۔ ب ۲۹ خ ۱

لئے فقرہ ارشاد علیہ السلام

لئے ۶۔ ب ۲۸ خ ۲

لئے ۶۔ م ۲۵ خ ۲

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

”جو شخص جبکی اپنی خوبی بھی کو کسی بے دین کے عقد میں دیتا ہے اس پر ہر روز ہزار لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔“ ۱

توضیح :

ایسا اس بیان ہوتا ہے کہ اس نے اپنی عزیز اولاد کو جن کی خاطر اس نے بڑی زحمیں اٹھائی تھیں اجھیں خود اپنے ہاتھوں خطرے میں ڈال دیا اور ان کے لیے فکری عملی اخراجات کی راہ ہموار کر دی۔ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس جوڑے سے آئندہ پیدا ہونے والی نسل سے رسیوں بلکہ سینکڑوں بچے تولد ہوں، وہ سب غلط راہ پر چل پڑیں اور اپنے معاشرے کو تباہی سے دوچار کر دیں اور یہ انسان (جس نے کسی بے دین اور شریلی کو اپنی رملی دی) ان کی بے شمار باتوں اور ان کو ملنے والی سخت سزاویں میں حصہ دار بنے گا۔

ولاتلقو بابا یدیکم الی التہلکة

”اپنے اپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔“

حسین بن بشار نے حضرت امام کاظم علیہ السلام کو کہا :

”میرے ایک رشتہ دار نے میری رٹکی کے لیے پیغام بھیجا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔“

حضرتؐ نے جواب دیا :

”اگر وہ بد اخلاق ہے تو اسے اپنی رٹکی نہ دو۔“ ۲

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”کیا میں تھیں یہ نہ تادوں کہ بدترین لوگ کون ہیں؟“

لوگوں نے عرض کیا :

”کیوں نہیں یا رسول اللہؐ۔“

آپ نے فرمایا :

”وہ جو بے گناہوں پر تہمت دھرتے ہیں، سمجھیں اور

بدزبان ہیں۔ دستِ خوان پر تہما بیٹھتے ہیں۔ ان سے کسی کو کوئی

محbalی نہیں سمجھی۔ اپنی بیوی اور اپنے غلاموں کو زد و کوب

کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کو دوسروں کا محتاج بنا کر رکھتے

ہیں۔ اپنے ماں باپ کو اذیت سمجھاتے ہیں۔“ ۳


امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”جو لوگ ایمان میں مکروہ ہوں ان کی لڑکیوں سے

تروعند کرو لیکن انہیں اپنی لڑکیاں نہ دو کیونکہ اس بات کا

زیادہ امکان ہے کہ لڑکی اخلاق و آداب میں اپنے شوہر سے

اثر لے اور مرد اسے اپنے عقامہ اختیار کرنے پر آمادہ کرے۔“ ۴



باب دوم

فصل — ۱

تمہاری رفیقہ حیات ایسی ہوئی چاہیے

پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ و آله وسلم فرماتے ہیں :

”تمہاری عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے جو کبھی دینے والی، ہمراں اور پاک امن ہو، تمہارے خاندان کے نزدیک وہ قابل احترام اور باعزت ہو اور شوہر کے سامنے تواضع اور انکساری سے کام لینے والی ہو۔ اس کا سنگھار صرف اپنے شوہر کے لیے ہو اور دوسروں کے سامنے باوقار انداز سے آئے اور ان سے بے پرواہ رہے۔ شوہر کی بات پوری توجہ سے سنے۔ اس کے حکم کے آگے سرتیم خم کرے اور غلوٹ میں خود کو شوہر کے حوالے کرے۔“

لیکن مردوں کی طرح عامیات رویہ اختیار نہ کرے۔“ لہ

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”انسان کی رفیقہ حیات گردن میں ڈالے جانے والے ایک طوق کی طرح ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ کیسا طوق اپنی گردن میں ڈالنا پسند کرو گے (العنت کا طوق یا رحمت کا)“ ۲۶

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :

”تمہاری بہترین حورتوں پانچ طرح کی ہیں۔“

لوگوں نے پوچھا:

”وہ کون ہیں۔“

آپ نے ارشاد فرمایا:

”سهیل الحصول، نرم طبع، میطع اور ایک ایسی عورت

جب اس کا شوہر غصہ میں آئے تو وہ اس وقت تک حین

سے نہ بیٹھ جب تک کہ اپنے شوہر کو راضی نہ کرے اور پھر ایک

ایسی عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت حفیثت

۱۔ د۔ ب۔ ۶ خ۔ ۲ / دینی خبر : النساء اربع ربیع

مربع و جامع مجمع و خرقاء متفق و عائق۔

۲۔ ج۔ ۱۰۳ - ص۔ ۲۳۳ مع / نکاح المستدرک باب ۱۳ خ۔ ۱ و فیہ
”فَانظِرُوا إِلَى مَا تَقْلِدُهُ“

”میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میری بیوی فوت ہو چکی ہے۔ وہ بڑی ہمدرم اور ہم ساز تھی اس لیے اب میں دوسرا شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اچھی طرح و بچھو کہ تم کس کو اپنی رفیقہ حیات بنارہے ہو اور کس کو اپنے ماں اور اپنے دین کا شرکیب اور ان پا ہمراز بنارہے ہو۔ اگر تجھے شادی کرنی ہی ہے تو کسی نیک کردار اور اچھی عادات رکھنے والی دو شیزہ کو تلاش کر کیونکہ عورتیں جن خصوصیات کی ملک ہوتی ہیں ان کا ذکر ایک شاعر نے اپنے ان اشعار میں کیا ہے:

اشعار کا ترجمہ:

طرح طرح کی عورتیں پیدا کی گئی ہیں، ان میں سے بعض قیمتی مال غنیمت کی طرح ہوتی ہیں اور دلبڑ دلربا ہوتی ہیں۔

ان میں سے بعض رات بھر جکنے والے چاند کی طرح ہوتی ہیں اور بعض اپنے شوہروں کے لیے شب تاریک کی طرح۔ جس شخص کو کوئی شاسترد عورت مل جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو دھر کے میں آ جاتا ہے رُگ تار پرندے کی طرح) اس کے لیے کوئی راہ فراہم نہیں۔“ لے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

لے د۔ ب ۶ خ ۱

کی حفاظت کرے۔ ایسی عورت کا الہی کارکنوں اور الہی عمال میں شمار ہوتا ہے اور وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتی۔ بعض خواتین بڑی بارکت ہوتی ہیں۔ بعض سچے دار ہوتی ہیں ایک سچے ان کی گود میں ہوتا ہے تو دوسرا ان کے سپیٹ میں۔ اور بعض عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بدآخلاقی سے پیش آتی ہیں۔ بعض عورتیں بھروسے سے بھروسے ہوئے امان کی طرح ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جس کسی (بدجنت) کی گردن میں جاہتباہے ڈال دیتا ہے۔“ لے

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شادی کے بارے میں مشورہ کیا، حضرتؐ نے فرمایا: بے شک تو شادی کر لیکن جس عورت سے بھی تو شادی کرے اسے باہمان اور خدا شناس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تجھے خیر سے نوازے۔ اچھی اور شاسترد عورت (اعضم) نایاب کوئے کی ماندہ ہے اس شخص نے پوچھا ”اعضم“ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ایک ایسا کو اجس کا ایک پیر سفید ہو۔“ لے

ابراہیم کرنی فرماتے ہیں:

لے د۔ ب ۶ خ ۵
لے م۔ ب ۹ خ ۲

”اللہ تعالیٰ کے قضاوت در کے نیصلوں میں سے ایک فیصلہ ایسا ہے جو اس کی حالت کی اصلاح کرتیا ہے اور اس فیصلے کا تعلق اس کے مقدار میں ایک ایسی بیوی کا لکھ دینا ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے اور جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی آہوں حفاظت کرے اور اس کی موجودگی میں اس کے ہر حکم کی اطاعت کرے جو وہ اسلامی احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے دے۔“ ۳

”اسلام لانے کے بعد کسی مسلمان کو جو سب سے زیادہ مال غنیمت ملا وہ ایک ایسی مسلمان رفیقتہ حیات کے سوا اور کچھ نہیں ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو، جو فرمابندر اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور عربت کی نہیں ہو۔“ ۴

”جس شخص کو یہ چار چیزیں مل گئیں اے دنیا اور آخوندی کی بھلائی مل گئی، صابر جنم، ذکر کرنے والی زبان، شکر بجالانے والا دل اور شاستذ بیوی۔“ ۵

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”تین چیزیں ہر دور میں کیا ب ہوتی ہیں۔ ایسا شخص

۱۔ د۔ ب۔ ۹۔ خ۔ ۷

۲۔ د۔ ب۔ ۹۔ خ۔ ۱۰

۳۔ م۔ ب۔ ۸۔ خ۔ ۲

جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کے ساتھ براذران روابط قائم کرنے ایسی شاشستہ بیوی جو دینی کاموں میں ساختی اور مددگار بنتے ایسا فرزند بور شدیافت ہو، جس کسی کو ان تین نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی مل گئی، گویا اسے دنیا اور آخوندی کی بھلائیاں مل گئیں اور اسے دنیا کی بہترین سعادت میں سے حصہ مل گیا۔ ۶

نیز آپ نے فرمایا:

”تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جو خوشبو رکھنے والی ہو اور جس کا پکان اچھا ہو، جس جگہ خرچ کرنا ہو وہاں خرچ کرتی ہو اور جس موقع پر خرچ کرنا مناسب نہ ہو وہاں خرچ نہ کرتی ہو۔ ایسی عورت کا شمار کارکنانِ الہی میں ہوتا ہے اور کارکنانِ الہی کو کبھی نامیدی اور شرمندگی کا سامنا نہیں ہوتا۔“ ۷

”تین چیزیں مومن کے لیے آرام کا باعث ہوتی ہیں: کشادہ مکان، جو اس کی زندگی کی بے سرو سالانی کی پرده پوشی کرے، شاشستہ بیوی جو دنیا اور آخوندی کے کاموں میں اس کی مددگار بنتے اور بیٹی کی گھر سے رخصتی۔“ ۸

”عورت کی کوئی قیمت نہیں، خواہ وہ اچھی ہو یا بُری ہو،

۱۔ م۔ ج۔ ۷۴۔ ص ۲۸۲۔ مص

۲۔ ب۔ خ۔ ۶۔ نکاح المستدرک

۳۔ ب۔ خ۔ ۱۳۔ نکاح المستدرک

اچھی خورت کو سونے اور چاندی سے نہیں تو لاجا سکتا کیونکہ وہ بہت قیمتی ہوتی ہے اور بڑی خورت مٹی کے برابر بھی نہیں ہوتی کیونکہ مٹی اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔“ لے

جب یہ آیت نازل ہوئی :

« جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں (اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے) انہیں ایک در دن اک نذارہ کی بشارت دے دو۔» پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا ”سونے اور چاندی کے لیے بلاکت“ اس پر صحابے دریافت کیا۔ ”یا رسول اللہ“ ہم کیسا مال جمع کریں؟ ”آپ نے فرمایا: ”شکراوا کرنے والی زبان ، وہ دل جس میں نرمی ہو، وہ رفیقہ حیات جو دین کے کام میں بخماری ساختی اور مددگار ثابت ہو۔“ لے

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :
”پانچ حصے زوں کا شمار اساب سعادت میں ہوتا ہے
شاستہ بیوی - نیک اولاد ، اچھا ساختی ، وطن کے اندرونی روزی کا میر آنا اور آل محمد سے دوستی۔“ لے

« شاستہ بیوی ، کشادہ مکان ، سفر کے لیے سواری

لے ب ۱۳ خ ۱ نکاح المستدرک

لے ب ۸ خ ۵ نکاح المستدرک لے ب ۸ خ ۷ نکاح المستدرک

لے ب ۸ خ ۵ نکاح المستدرک
لے م - ب ۸ خ ۵
لے م - ب ۸ خ ۳ لے و - ب ۶ خ ۸
لے و - ب ۶ خ ۲ / و فی خبر آخر اضافة قوله (عفیفة)
فی فریجها غلمه على زوجها نکاح المستدرک - ب ۵

صالح فرزند ، مرد کے لیے نوشل فضیبی ہیں ” لے

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی گئی :

” میں نے فلاں شخص کو دنیا اور آخرت کی بھلانی لی گئی
اسے شاشتہ بیوی عطا کی ہے ” لے

امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں :

” تم میں سے بہترین عورتی قریش کی خور میں ہیں وہ
اپنے شوہر کے ساتھ بہت محبت و خلوص رکھتی ہیں ، بچوں پر
ہم بان ہوتی ہیں ، شوہر کی اطاعت کرتی ہیں اور دوسروں
سے منہ پھیر لیتی ہیں ” لے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

” میری امانت کی بہترین عورت (شادی کے نقطہ نظر
سے) وہ ہے جو صورت میں اچھی ہو اور اس کا تہر کم ہو۔“ لے

” تم میں بہترین عورت وہ ہے جو پاک امن اور محبت
کرنے والی ہو۔“ لے

لے ب ۸ خ ۵ نکاح المستدرک

لے م - ب ۸ خ ۵

لے م - ب ۸ خ ۳

لے و - ب ۶ خ ۸

لے و - ب ۶ خ ۲ / و فی خبر آخر اضافة قوله (عفیفة)
فی فریجها غلمه على زوجها نکاح المستدرک - ب ۵

و دنیا کی حیثیت ایک متاع سے زیادہ نہیں ہے۔

(یعنی زندگی کرنا نے کا ذریعہ ہے) اور دنیا کی بہترین متاع
ایک شائستہ بیوی ہے، اے

امام مفتوم علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ:

”قیامت کے دن مون نے تین چیزوں کا حساب نہیں لیا
جائے گا۔ ایک غذا جو اس نے کھائی اور دوسراے لباس جو
اس نے پہننا اور ثالثہ یہوی جو اس کے کاموں میں مددگار
ہوا اور اس کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔“ اے

توضیح:

غذا اور لباس جو جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ محشر کے عظیم جماعت
اور اس کے روح فرسا ماحول میں ایک مون ان چیزوں کے حساب کی مشقت سے بچے
جائے گا۔ بہت سی روایات کے مطابق ان دو چیزوں کے سوا دوسری چیزوں
کا محاسبہ بھی ہوگا۔

جبیا کہ حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا:

”حلال چیزوں کے بارے میں حساب ہوگا اور حرام
چیزوں کے بارے میں سزا تجویز کی جائے گی) متاع دنبا
میں سے جو حلال چیزیں آدمی جمع کرے گا روز محشر اس سے
ان کا حساب دیا جائے گا اور حرام چیزوں پر اسے سزا

۱۴ م، ب ۸ خ ۱

۱۵ م، ب ۸ خ ۲

دی جائے گی۔“

غذا اور لباس دغیرہ جو کچھ ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے گا۔
آیات قرآنی اور روایات کے مطابق بلاشک و شبے اس کا حساب کتاب ہو گا اور بدلم
دیا جائے گا رَلَهَا مَا كَسْبَتُ وَ عَلَيْهِ أَمَا كُنْسَبَتُ

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:
”شائستہ یہوی لباس کی طرح (عیوب پوش) ہے،“

توضیح:

میاں اور یہوی جب لائیں اور شائستہ ہوں گے اور فکری و اخلاقی ہمایہ سمجھی
رکھتے ہوں گے تو وہ ایک دوسراے کے بھیزوں، عیبوں اور خایبوں کی پرپہ پوشی کریں گے
خود شادی، میاں یہوی کو حصی بے راہ روی اور شہوانی خواہشات کے طغیان سے
محفوظ نظر رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے دونوں کی عرفت اور ابرو کی حفاظت ہوتی ہے
چنانچہ فرشتہ آن جید کا ارشاد ہے:

”تحثاری یہویاں تحثارے لیے پالدا منی کا لباس
ہیں اور تم ان کے لیے پالدا منی کا لباس ہو؛“

(هُن لِبَاسٌ لَكُمْ وَ انتُم لِبَاسٌ لَهُنَّ)

”موزوں یہوی دل کے سکون اور آرام کا سبب
ہوتی ہے۔“ اے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

سے نہیں بھکی، اگر وہیں ہوئی تو اپنے شوہر کے مال
کی حفاظت کرے گی، اگر خود کھانے والے ہوئے تو وہ بزرے
مال آفت کے باسے میں خونروہ ہوئی (اور اتنا شامی کسی
شکار کے جال میں نہیں پہنچے گی) ۔ لے

المعصرات علیہ السلام اشارہ نہیں ہیں:
”تم میں سے بہترین گھرت وہ ہے جب کہی وہاں فن
ہوتی ہو یا شوہر کو اپنی دلچسپی ہو تو وہ کہتی ہو۔ میرا ماتھے
تیرے اپنی ہے جب تک تو مجھ سے خوش ہوں ہو جائے
میں اپنی سے نہیں سووں گی۔“ لے

پیراٹ نے زیماں:
”کسی بھی شخص کے لیے ایک اپنی رُنِیقات سے
بہتر کوئی نہیں دی تی کہ جب وہ اسے دیکھنے تو خوش
ہو جائے، جب وہ کسی بات کی قسم کا نہ تھا تو اس کی قسم کو
پورا کرے اور اس کی پیغمبری میں اس کی ناوس کی
حفاظت کرے ۔“ مے

”ایمان را غائز سے یہ گھنے کی پیشان میں سنبھیہ

لے ص ۱۳۶ صفحہ
لے ۳-ب ۹ نومبر ۲۰۱۷ صفحہ
لے ۳-ب ۹ نومبر ۲۰۱۷ صفحہ

”کوئی راٹیوں سے شادی کرو ان کے رہنے نہیں
دکشی اور ان کے رجیم پیسوں لی پر کوشش کرنے والے، ان کا
حافظہ تیز اور ان کی محبت پاڑا تو میں ہے ۔“ لے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیماں:

”ایق شریب حیات کے انتساب کے وقت اس کے
بالوں کے باسے میں بھی تینی کریا کرد جس طرح تم اس کے
پیغمبر کے بالے میں مسلم کرئے ہو، کیونکہ بالکل بھولی
کا سبب ہوتے ہیں ۔“ لے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

”ایسے ہم ترے لوگوں کو پیدا کیاں دو اور اپنے
امم ربہ لوگوں سے رکیاں حاصل کرو، اور اپنی ائمہ افضل
کے لیے مناسب کشتہوں کا انتخاب کرو،“ تھے

حضرت علی کا ارشاد ہے :

”عمرت کی بہترین صفات (زادا بی رنگ) کے مطے
میں مردی پر تین صفات سمجھی جاتی ہیں۔ یعنی غزوہ، خرون
اور سجنی۔ اگر کوئت مغروہ ہوئی تو شہر کے علاوہ کسی کے

لے ۳-ب ۹ نومبر ۲۰۱۷ صفحہ
لے ۳-ب ۹ نومبر ۲۰۱۷ صفحہ
لے ۳-ب ۹ نومبر ۲۰۱۷ صفحہ

نشان کی طرح ہے (ظاہر اس سے مراد کیا جائے ہے اگرچہ یہ
مثال شہرت کے لیے موزوں ہے) ”لے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
”کسی بھی شخص کو ایمان کے بعد اگر کوئی بہترین مال غنیمت
میسر آلاتا ہے تو وہ موزوں رفیقہ حیات ہے۔“ لے

”بابرکت رفیقہ حیات ایک ایسی خاتون ہے لجس کے
ساتھ شادی کا اور جس کی زندگی کا خرچ کمتر ہو۔“ تے

فصل ۲

عورتوں کی کمی قسمیں ہیں

امام حبیف صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”عورتیں تین قسم کی ہیں، ایک وہ جو نفع ہی نفع ہیں -
دوسری وہ جو فائدہ بھی ہیں اور نقصان بھی۔ تیسرا وہ جو
خالص نقصان ہیں۔ خالص نفع والی کنواری رُکیاں ہیں۔“

نفع اور نقصان والی ایسی بیوہ عورتیں ہیں جن کی کوئی اولاد
نہیں اور خالص نقصان والی عورتیں وہ ہیں جو بیوہ بھی
ہیں اور اولاد بھی رکھتی ہیں۔“ تے

(یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسی کنواری (لطکی جسے کسی دوسرے مرد نے نہ
چھووا ہو زندگی کے لیے بہت موزوں ہوتی ہے اور وہ لیے ہتھر اخلاق کی حامل ہوتی ہے
جو شوہر کے ساتھ موافقت کا سبب بنے)

اسی طرح بے اولاد بیوہ اپنے نئے شوہر اور اپنی زندگی سے بہت زیادہ
دلچسپی رکھنے والی ثابت ہوتی ہے اور بعد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتی ہے
اور اپنے نئے شوہر اور اس سے ہونے والے بچوں کو اپنی محبت اور الافت دے سکتی
ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری اور تیسرا متم کی عورتوں کو گھر میں
بیٹھ رہنا چاہیے اور کسی بھی شخص کو ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد شادی
کے لیے بہتر ہونے میں ان کی ترجیح کو ظاہر کرنا ہے۔

یعنی اگر کسی شخص کو اپنے لیے بہتر رفیقہ حیات منتخب کرنا ہے تو پہلی
تم کی عورتیں دوسری متم کی عورتوں پر مقدم ہیں اور دوسری تیسرا پر۔

(اگر کوئی شخص اپنی خاہشی نفس کے خلاف کام کرنا چاہتا
ہے اور سچے طبقہ کی بنے سہما ر عورتوں سے محض اس لیے
شادی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور
مساشرہ کے ایک فرد کی ضرورت کو پورا کرے اور اس

طرح ایک فرد کی یا ایک بے سہارا خاندان کی سرپرستی کی
ذمہ داری اپنے سر لینا چاہتا ہے تو یہاں بہت ہی پسندید
اور اسے تعالیٰ کے پاس باعث اجر ہے)۔
یہاں پوری طرح واضح ہے کہ عورتوں کی یہ طبقہ بندی ایک لکھے کی
حیثیت نہیں رکھتی۔ اس سے مرا ایک عمومیت ہے۔

حضرت امام حجۃ الرصاد علیہ السلام فرماتے ہیں:

”عورتیں تین قسم کی ہیں۔ ایک کنواری، بچے دینے
کی صلاحیت رکھنے والی اور محبت کرنے والی عورت جو دنیوی
اور آخری امور میں اور شوہر کی پریشانیوں میں اس کی مددگار
بنے اور مصیبتوں کے وقت اس سے بے وفا نیز کرے۔ دوسری
وہ عورت جو بانجھو ہو، زخوبورت ہو اور نہ بالخلاف اور کسی
بھی نیک کام میں شوہر کا ہاتھ نہ ٹبائے۔ تیسرا وہ جو حجۃ الدالو
لیلی اور عیوب ہیں ہو، زیادہ کو کم، ہی سمجھے اور کم یعنی پرآمادہ
نہ ہو۔“ ۱۷

امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں:

”عورتوں کی کئی اقسام ہیں :

۱۔ غافلہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہر کو پسند کرتی
ہیں اور اس سے محبت کرتی ہیں۔

۲۔ بس رات بھر رہنے والے چاند کی طرح شوہر کو جلوہ
دکھاری ہیں (یعنی جن کی روشنی بھی کم دلت کے لیے ہوتی ہے
اور فائدہ بھی)

۳۔ شوہر کے لیے تاریک رات کی طرح ثابت ہوتی ہیں۔
جو شخص بھی کسی شاشتہ عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب
ہو جاتا ہے وہ خوش نسبیت ہے اور جو شخص کسی ناشاشتہ
عورت کے دام میں چیز جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔“ ۱۸

فصل ۳ —

ایسی عورتوں سے دُور رہنا ہی اچھا ہے

پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”کیا میں تھیں زبانوں کی محکاری عورتوں میں سے
بدترین عورت کون ہے؟ وہ عورت جو پہنچانے خاندان میں تو
ذیل اور بے وقار ہو اور شوہر کے سامنے بڑی معزز بننے کی
کوشش کرے، بانجھ اور کینہ پر وہ ہو، بڑے کاموں سے
منزہ ہو۔ شوہر کی غیر موجودگی میں تو خود کو اس سے

کرے اور اس کی موجودگی میں اجڑ بن کر رہے ہے۔ شوہر کی بات پر کان نہ دھرے، اشوہر کے کسی عندر کو قبول نہ کرے اور اس کی غلطی کو نظر انداز نہ کرے۔^۱

”تمہاری بدترین عورت بانجھ، گندی رہنے والی ٹندی اور نافرمان ہے۔ خاندان کی نظروں میں تو وہ حقیر ہو گئیں اپنی نگاہوں میں معزز بنے۔ شوہر کی نافرمان اور دوسروں کے احکام بجالانے والی ہو۔“^۲

پسند اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابی ایک دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں:

”۱۔ اللہ میں ایسے فرزند سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرا نافرمان ہو اور ایسے ماں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نے تیر تباہ ہو جائے اور ایسی شرکیب حیات سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے اور ایسے ساتھی سے جو مکروہ فریب سے کام لے۔“^۳

آپ نے فرمایا:

”سبرزہ مربلاہ سے دور رہو۔“ صحابے پوچھا سبرزہ مربلاہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ خوبصورت

۱۔ و-ب ۷ خ ۱

۲۔ و-ب ۷ خ ۳۴

عورت جس نے ایک رذیل اور سپت لگھانے میں تربیت پائی ہو۔“^۱

حضرت امام حفیظ صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی“ یا رسول اللہ^۲ میرے چھاکی رٹکی ہے جس کے حسن و جمال اور دینداری کو میں پسند کرتا ہوں لیکن وہ بانجھ ہے (کیا میں اس سے شادی کروں؟) آپ نے فرمایا: اس سے شادی نکرو۔“^۳

آنحضرت نے فرمایا:

”عورت کی بدلفیزی اس کے چہر کا زیادہ ہونا اور بانجھ ہونا ہے۔“^۴

آپ نے فرمایا:

”تمہاری بدترین عورت وہ ہے جو بے حیا اور ترش و نبو۔“^۵

۱۔ و-ب ۹ خ ۲ و فی خبر جعفریات ”اعوذ بالله من مال یکون علی عقاً و اعوذ بالله من صاحب خدیعة ان رأی حسنة دفعها و ان رأی سیئة افشاها۔“

۲۔ و-ب ۱۵ - خ ۱ و خ ۲

۳۔ و-ب ۱۵ - خ ۱ و خ ۲

۴۔ م - ب ۸ خ ۱۷

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
 ” بدترین شرکیب حیات وہ بے جو نامزوں اور
 ناموافق ہو۔“ لئے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

” غمی اور کنف دین بن عورتوں کو شرکیب حیات بنانے
 سے پر بیز کرو کہ ان کی ہم نشینی ایک مصیبت ہے اور ان کی
 اولاد تباہ ہے۔“ لئے

فصل ۲

عورت کے مال و جمال کونہ دیکھو

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

” جو شخص بھی صرف حسن و جمال کی خاطر کسی عورت
 سے شادی کرتا ہے ۔ وہ اس کے وجود میں اپنی مراد نہیں پائے گا
 اور جو شخص بھی صرف مال کی خاطر کسی عورت سے شادی کرے گا

اس سے اس مال کے حوالے کر دے گا (اس مال کے سوا اسے
 اس عورت سے کچھ نہیں ملے گا) اس لیے تم ہمیشہ شادی کے لیے
 با ایمان شرکیب حیات کو منتخب کرو۔“ لئے

” جو شخص کسی حلال خاتون سے حلال مال کے ساتھ شاری
 کرتا ہے لیکن اس کا اس شادی سے مقصد صرف نمود و نماش
 اور شان جتنا ہو تو اس اللہ تعالیٰ ایسے رشتے کو اس کے لیے ذلت
 خواری کا ذریعہ بنادے گا (اس طرح کے رشتے اکثر بڑے
 گھرانوں میں کیے جاتے ہیں اور شوہر کو مجبوراً اپنی بیوی اور
 سسرال کی خدمت کے لیے ہمیشہ کمرکسی رکھتی پڑتی ہے جسے

” جو شخص کسی عورت کو اس کے مال کی خاطر حاصل کرتا ہے
 تو اس اللہ تعالیٰ سے اسی مال کے حوالے کر دیتا ہے (وہ عورت کی
 دوسری خوبیوں سے خود کو محروم کر دیتا ہے) جو شخص کسی عورت
 سے اس کے حسن و جمال کی خاطر شادی کرتا ہے وہ اس عورت
 کی جانب سے ناگوار باتیں دیکھیے گا اور جو شخص کسی عورت سے
 اس کی دینداری کی بنا پر شادی کرے گا اس اللہ تعالیٰ سے محروم
 نہیں رکھے گا۔“ سے

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی شادی سے منع فرمایا ہے جو غیر اسلامی
 کی خاطر کی جائے اور جس کا مقصد عنافت کی حفاظت کے سوا کچھ اور ہو اور آپ نے

ابی شادی سے کبھی منع فرمایا جس کا مقصد محفض نمود و نمائش ہو۔“ لے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت سے محفض اس کے حسن و
جمال کی خاطر شادی کرنے سے منع فرمایا۔

”اس کا مال اس کے لیے طفیان کا سبب بنے گا اور
اس کا جمال اس کے لیے تباہی کا ذریعہ ثابت ہو گا شادی
کے بارے میں عورت کے دین واہیان پر نظر رکھو۔“ لے

—————
—————

فصل ۵

لڑکوں کو شرکیبِ حیات کے انتخاب
کے لیے آزادی دو

ابن ابی لیفور کہتے ہیں :

”میں نے امام حبیر صادق علیہ السلام کی خدمت میں
عرض کی کہ میں نے شادی کے لیے ایک عورت کو پسند
کیا ہے اور میرے ماں باپ نے ایک دوسری عورت
کو منتخب کیا ہے (میں ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں)

لے، لے نکاح المستدرک ب ۱۳ خ ۳۶۱

آپ نے فرمایا : تم خود جس لڑکی کو پسند کرتے ہو اسے منتخب
کرو اور جس عورت کو ماں باپ نے پسند کیا ہے اسے چھوڑو۔“ لے

توضیح :

یہ حکم مس صورت کے لیے ہے جس میں ماں باپ نے ایک عمومی حیثیت
سے کسی لڑکی کا نام تجویز کیا ہو خصوصی طور پر اپنی خواہش ظاہرہ کی ہو۔ اگر انہوں نے
خصوصی اور حتیٰ طور پر کسی لڑکی کو اس طرح پسند کیا ہو کہ وہ کسی مخالفت ان کی
ناراضیگی کا سبب بن سکتی ہو تو چھر معاملہ غور طلب ہو گا کیونکہ ماں باپ کی مخالفت ان
کے اذیت پہنچانے کا سبب بنے گی اور یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ پس اسے ماں باپ کی رضاہدی
حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ ان کی خوشنودی حاصل ہو۔ کیونکہ ماں باپ کا اتنی
اس سے زیادہ ہے جس کا لوگ عموماً تصور کرتے ہیں۔

فصل ۶

شادی سے پہلے دعا

وَسْتُرَّاَنْ مُجِيدْ نَعَ الْهُدْقَالِيَّ كَفَرْمَاَنْبَرْدَارِنْبَدْوَنْ كَتَتْرِيَتْانْ
انفاظ میں کی ہے :

”اور وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا یا! ہماری عورتوں

اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا فورینا اور سہیں پر ہمیرگار
لوگوں کا پیشوا بنا۔“ ۱۷

حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں :
”جب تم شادی کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب
کرو، اس کے بعد قدم بڑھاؤ، دو رکعت نماز ادا کرو اور
درگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھ بچیلاؤ اور عرض کرو :
خداوند! میں شادی کا خواہشمند ہوں۔ مجھے ایسی
شرکیب حیات عطا فرمائ جو اپنے جسم اور اپنے اخلاق کے اعتبار
سے پاک لامن، شہر کے مال اور آبرو کی محافظ، خوبصورت اور
اولاد پیدا کرنے میں عورتوں کے درمیان ممتاز و نمایاں ہو۔“ ۱۸

فضل —

شادی کی رات

حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے :
”جب دہن تھمارے پاس بھیجی جائے تو اس کی پیشانی

۱۷ ارشادِ رحمتی تعالیٰ : وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُنَّ أَرْوَاحُنَا وَ
مِنْ ذَرِيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِّيِّنَ إِمَاماً۔
(فرقاں - ۲۴)

۱۸ بخاری ج ۱۰۳ ص ۲۲۸ ضا

کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لو اور قبلہ رو ہو کر دعا کرو : اے
خدا! مجھے میری امانت مل گئی، شادی کے معاملے کے تحت
میں نے اسے اپنے لیے حلال کیا۔ اے اللہ! اس کے بطن سے
مجھے ایک مبارک اور ہر اعتبار سے مکمل فرزند عطا فرماء اور
شیطان کو میری نسل سے دور رکھ۔“ ۱۹

حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے :

”جب دہن جلد رعنوں میں داخل ہو تو شوہر کو جائیے
کہ دو رکعت نماز ادا کرے اور بھر دہن کی پیشانی پر ہاتھ
رکھتے ہوئے عرض کرے۔ خدا یا! میری شرکیب حیات
کو میرے لیے اور مجھے اس کے لیے مبارک بنا اور سہیش
ہمارے درمیاناتفاق و محبت برقرار رکھتے ہوئے ہماری
زندگی کو مبارک بننا۔ اگر ہماری فستیت میں بالآخر جدائی
لکھی ہو تو اس جدائی کو بھی خیر و خوبی کے ساتھ منتدر
فرمادے۔“ ۲۰

۱۷ ج ۱۰۳ ص ۲۲۸ ضا

۱۸ ج ۱۰۳ ص ۲۲۸ ضا

فصل — ۸

ولیمہ

پنجمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:
”ولیمہ مستحب نہیں ہے مگر پانچ موقع پر :
شادی ، فرزند کی ولادت ، ختنہ ، مکان کا خریدنا۔
اور سفر حج سے واپسی پر۔“ ۳۷

حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں :
”ولیمہ ایک دن کا ہے ، دوسرے دن بھی کھانا
کھلانا باعث عزت و کرم ہے۔ اور تیسرا دن نور و
نماش ہے“ ۳۷

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
”پنجمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میموز بنت
حارث سے شادی کے موقع پر ولیمہ کی دعوت دی اس دعوت
میں تھیں“ کپوائی گئی (کھجور اور رونن اور کچھی آٹا ملا کر بناتی ہیں) ۳۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :
”رات میں شادی کرو اور دن میں ولیمہ دو۔“ ۳۷

حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں :

”جب سجاشی (بادشاہ جبش) نے ابوسفیان کی بیٹی
آمنہ کے پاس پنجمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شادی
کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
ان کا حفظ کر دیا تو سجاشی نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا اور اس
نے کہا۔ شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ کرنا پنجمبر دل کی سنت ہے۔“ ۳۷

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شاری سے متعلق حدیث میں بے کہ
پنجمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”اے علی! اپنی رضیتھیت حیات کے اعزاز میں ایک
شاندار دعوت کا اہتمام کرو۔“
پھر آپ نے ارشاد فرمایا :

”گوشت اور ردنی ہماری جانب سے ہوگی اور رونن
متحاری طرف سے۔“

امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”میں نے رونن اور کھجوری خریدیں پنجمبر اکرم نے اپنی

آئینی حپڑھالیں اور کھجور کے ٹکڑے کر کے روغن میں ڈالنا شروع کر دیا اور پھر دونوں کو خوب ملا دیا تاکہ "حیس" تیار ہو جائے۔ (حدیث ۳ میں حیس کی وضاحت کی گئی ہے) اور ایک مینڈھا بھیجا، ہم نے مینڈھا ذبح کیا۔ کافی مقدار میں روٹیاں تیار کی گئیں سچھرا پ نے فرمایا: اے علی! تم جس کی کوئی چاہو دعوت دے دو۔ میں مسجد میں گیا اور اعلان کیا: "فاطمہ کی دعوت ولیم کو قبول کیجیے۔" اے

حمد بن عثمان کہتے ہیں:

"حضرت امام حفیظ صادق علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل نے دعوت ولیم دینی چاہی تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: محتاج لوگوں کی دعوت کرو اور بھجوں کو سیر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ باطل کوفتا و نابود ہونا ہے۔" ۲

یہ حدیث عمومی دعوت کے منشے کو سمجھوی واسخ کرتی ہے۔ اگر اسلام نے شادی، مکان کی تعمیر، رات کی خستہ، جج سے والپی کے موقع پر دعوت کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی ہے تو اس کا بہترین مقصد محتاج لوگوں کی خدمت کرنا اور بھجوں کو کھلانا رہا ہے تاکہ محتاج لوگ بھی امیروں کے عیش و آرام میں حصہ دار بن سکیں۔ اگرچہ

۱۔ بخار باب تزویجها خ ۵

۲۔ بخار ج ۱۰۳ - ص ۲۸۷ سن

ان مواقع پر مالدار لوگوں کو کبھی دعوت میں شرکیے کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔

فصل — ۹

نہ

ہر وہ چیز جس کی کوئی قدر و قیمت ہو، وہ دعوت کا تہرستار پا سکتی ہے۔ (جیسے باغ، جائیداد اور زمین وغیرہ)
اسی طرف کوئی عمل یا خدمت کبھی ہے قرار پا سکتی ہے (جیسے عمارت کی تعمیر کر دینا، یا زمین کا آباد کرنا یا کنوں کا کھوڈنا، یا کسی علم کا سکھانا) تاہم دس درہم کم کا ہر باندھنا مکروہ ہے جیسا کہ امیر المؤمنین علیؑ نے ارشاد فرمایا:

"محجے یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہر کی مقدار دس درہم سے کم ہو تاکہ یہ زنا کی اجرت کے مثابہ نہ قرار پائے۔" ۱

ہر سنت کا فتہ اپنا منتخب ہے۔ (پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کا ہر بانج سود رہم تھا موجودہ دور کے مطابق پانچ سو روپے) اس لیے ہر انسانی یا اس سے کم ہوا چاہئے اور اس سے زیادہ رکھنا مکروہ ہے۔

(یعنی سارے بارہ) سکے دار چاندی کے دانے بازار میں جن کی قیمت چھ سو روپیہ تری رہتی ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
”میری انت کی عورتوں میں سے بہترین عورت ودھے
جو زیادہ حسین ہو اور جس کا ہر کم ہو۔“ ۱۷

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا :
”خوب پڑھا چہ طرح اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
سبب بتا بے۔“ ۱۸

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :
”خوب پڑھ کا کم کرنا اور بچوں کی ولادت میں آسانی کا ہونا
عورت کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ خوب کی زیادتی اور
بچوں کی ولادت میں دشواری عورت کے لیے بدشگونی ہے۔“ ۱۹

توضیح :
اگر عورت خود زیادہ خوب اور زیادہ ہر کی طالب ہو، عقیدہ و اخلاق کی بہم آہنگی
کے باوجود کم ہر قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو اور زیادہ ہر کو عزت اور نفع اندوں کی
ذریعہ سمجھتی ہو تو ایسی عورت کے لیے روایات میں جس بُرانی اور بدشگونی اور جس لعنۃ و
ملامت کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس کے حصے میں آئے گی۔

اگر عورت کے ماں باپ، شوہر پر اس طرح کا بوجھ جو الیں تو وہ بھی اسی
لعنۃ و ملامت کے مستحق ہوں گے۔

۱۷، ۱۸ وسائل ابواب المختار باب ۵ خبر ۶ - خبر ۷

۱۹ وسائل ابواب المختار باب ۵ - خبر ۳

بچوں کی ولادت میں دشواری سے تعلق جس بدشگونی کا ذکر کیا گیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی اور طبعی خامی ہے جو عورت کے اندر موجود ہے
اور اس سلسلے میں خود عورت پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔

حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں :

”شادی کے وقت تم اس بات کا خیال رکھو کہ ہر کم قوم
پانچ سو درہم سے بڑھنے نہ پائے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنے کی ازواج کا کبھی مہر تھا۔“ ۲۰

محمد دکھنے ہیں :

”میں حضرت جو ار علیہ السلام کی محفل عقد میں موجود
تھا، حضرت نے خطبہ ارشاد کرنے کے بعد فرمایا : امیر المؤمنین
مامون نے اپنی لڑکی کی میرے ساتھ شادی کی اور ان ضوابط کے
مطابق کی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں کہ معمول کے مطابق
عورت کی دیکھ بھال کریں یا اگر نہ چاہیں تو اسے خیر و خوبی کے
ساتھ خصست کر دیں۔ میں نے پانچ سو درہم کا ہر جو پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر تھا، ادا کیا۔ اس کے علاوہ ایک
سو ہزار درہم اپنے مال سے اسے بخش دیے۔“ ۲۱

توضیح :

مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہر کے علاوہ کچھ دیتا ہے تو وہ

۲۰ مستدرک - ابواب المختار باب ۵

۲۱ مستدرک - ابواب المختار باب ۵

بات یہوی کے تو تعلق خاطر اور اچھے روابط کو خدا ہر کرتی ہے۔ یا یہ کہ شوہر اس طرح اچھے تعلقات کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس طرح دیے جانے والے اموال کی حیثیت محسن رواجی نہ ہو بلکہ انہیں زندگی کے وسائل کا حصہ بنانا چاہئے، یا اموال تجارتی میں لگنے چاہیں یا اسلام کی تبلیغ کے لیے انہیں استعمال کیا جانا چاہئے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”مَهْرُّ حَدَّا حِلْ حَارِمَتْ بَانِ حَصْرٍ هُوْ مُحِبْتُ اللَّهِ تَعَالَى
لِي طَرْفَ سَمِّيَّ جَاهِيَّةً (شادی کر کر توڑنے والا معاہدہ نہیں
ہونا چاہئے)“ ۱۷

حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:
”ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی: یا رسول اللہ!
میری شادی کرو دیجیے“ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں
سے پوچھا: تم میں سے کون شخص اس خاتون کے ساتھ شادی
کرنے پر آمادہ ہے؟“ حاضرین میں سے ایک شخص نے اٹھ
کر کہا: میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے دریافت
فرمایا: ”تو کتنا نہ رہ دے گا“ اس نے عرض کی میرے پاس
نہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: ”میرے بغیر
شادی نہیں ہو سکتی“ حضورؐ نے دوبارہ حاضرین سے

پوچھا کہ کیا کوئی اور شخص اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے^{۱۸}
تیار ہے۔ حاضرین میں سے کوئی آمادہ نہ ہوا۔ تیسرا باحضورؐ
نے اسی آدمی کو طلب فرمایا اور پوچھا: کیا تو نے قرآن کی کچھ
آیات یاد کی ہیں؟ اس شخص نے اثبات میں جواب دیا۔ اس پر
آپ نے فرمایا: تجھے جس قدر تسلیم یاد ہے اس کی تعلیم دینے^{۱۹}
کے عوض میں اس عورت کو تیرے عقد میں دیتا ہوں۔“ ۱۷

جن معاشرہ میں شادی اس سادگی کے ساتھ اور بغیر کسی تکلفات کے
انجام پاتی ہو اور میاں یہوی آغاز ہی سے اپنی ازدواجی زندگی میں کسی رنج و مشقت
سے دوچار نہ ہوں ایسا معاشرہ خوش نسبیتی سے بہترہ مند ہوتا ہے اور اس معاشرہ
میں نہ رکا کا رٹکی بھاری رسوم اور پابندیوں کی وجہ سے شادی سے پر ہیز کرتے ہیں اور
ن شادی پر کنوارے پن کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو اخلاقی مفاسد اور بگار کا حرش ہے۔
وہ جسمانی اور روحانی بیماریوں اور آبودگیوں سے بھی دوچار نہیں ہوتے
جو دراصل مجرد زندگی گزارنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے معاشرہ کی نیشنل اپنے والدین کے
بڑھاپے اور ان کی جوان کے دور کے ختم ہونے کی وجہ سے مناسب تربیت سے محروم
بھی نہیں ہوتی۔

غیبیں بات یہ ہے کہ دین کی اعلیٰ تعلیمات اور اس کے سعادت بخش ضوابط
کے زیر سایہ اس قدر سہولت اور سادگی کے ساتھ ہونے والی شادیاں ان شادیوں کی پہنچ
زیادہ دیرے سے تفرقة اور جداٹی کے انجام سے دوچار ہوئی ہیں جو آج ناقابل برداشت شارط
اور انہائی تکلفات کے ساتھ انجام پاتی ہیں کیونکہ اسلام نے طلاق کے لیے جو سنگین

شرائط مقرر کی ہیں اور جو اخلاقی صنوار بٹ بنائے ہیں اور اس کی جوبہت زیادہ مذکور
کی ہیں وہ خاندان رشتہ کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر موجود رہی ہیں۔

حضرت امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں:

”کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی موجودگی میں کسی شخص کی کسی عورت سے شادی انجام
پانی اور اس کا جہر قرآن کی ایک سورت کی تعلیم دینا یا ایک دہم
یا ایک منفی گھبیوں قرار پایا۔“ لئے

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

”ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مت
میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ! میں اس عورت سے
عقد کرنا چاہتا ہوں۔“ آپ نے پوچھا: تو اس کا لکھنا ہر ادا کرے
گا۔“ اس نے جواب دیا۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔“ آپ
نے فرمایا: ”یہ انگلشتری جو تو اپنی انگلی میں پہنچنے ہوئے ہے۔
کیا یہ تیری اپنی ہے؟“ اس نے کہا: ”جی ہاں۔“ آپ نے
فرمایا: اسی انگلشتری کو ہر کے طور پر دے کر اس عورت سے
عقد کر لے۔“ لئے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لئے مستدرک - ابواب المھور باب ۱
تمہ مستدرک - ابواب المھور باب ۱

لئے مستدرک - ابواب المھور باب ۱
تمہ مستدرک - ابواب المھور باب ۱
تمہ بھار - جلد ۱۰۳ - ص ۳۴۸ عین

”اگر لوگ دو درہم جہر بھی دے کر عقد کر لیں یہ جائز
ہے۔“ لئے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
”مرد، عورت کو ایک سورت کی تعلیم دے کر یا تھوڑا
سامال اسے جہر کے طور پر دے کر اس سے عقد کر سکتا ہے۔“ تے
حسین بن خالد کہتے ہیں:

”حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام
نے فرمایا: کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے اس کی رڑکی مانگتا
ہے اور پانچ سو درہم جہر کے طور پر دینا چاہتا ہے لیکن وہ
شخص پیغام کو قبول کرنے کی بجائے جہر کی مقدار کے کم ہونے
کی شکایت کرتا ہے اور اس کے پیغام کو مسترد کر دیتا ہے تو
درactual وہ اپنے مومن بھائی پر بڑا ظلم کرتا ہے اور اس صورت
میں وہ اس بات کا مستحق ہو گا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے
حور العین جیسی نعمت سے محروم فرمادے۔“ تے

ابن سنان نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے نام ایک خط میں لکھا:
”مرد کی طرف سے عورت کو جہر ادا کرنے کی کیا حکمت ہے

لئے مستدرک - ابواب المھور باب ۱

تمہ مستدرک - ابواب المھور باب ۱

تمہ بھار - جلد ۱۰۳ - ص ۳۴۸ عین

آخر خورت، مرد کو مجھ کیوں نہ ادا کرے؟ ”
اپنے نے فرمایا :

”اس لیے کہ عورت رُنگرے کاموں اور بچوں کی تربیت
میں مشغولیت کے سبب کامنے اور تجارت کرنے کے موقع نہیں
رکھتی اور اس کی آمدی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ
دوسری بہت سی وجہوں میں ہیں۔“

اسلام نے عورت کو کامنے، کام کرنے اور تجارت کرنے سے حصہ مانع نہیں
کیا ہے لیکن اس کے حالات کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ خود اس طرح کی مصروفیتوں
اور مشاغل سے دور ہو جاتی ہے۔ ہم سب اس بات سے واثق ہیں اس لیے عورت کی طرف
سے مرد کو مجھ ادا کرنے کی تائید نہیں کی جاسکتی۔

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عورت، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر
نہیں نکل سکتی۔ اس کا بہترین کام شوہر کی خدمت اور بچوں کی پرورش ہے اور بچے تھنے
زیادہ اور بہتر ہوں یہ ساری ذمہ داری اس کا پورا ذلت ہے لیکن دوسرے کاموں کے لیے
اس کے پاس کوئی وقت نہیں بچے گا اور ان ساری گھر کی مصروفیتوں کے درمیان اسے وہ
اطمینان اور یکسوئی ہی میر نہیں آئے گی جو دوسرے کاموں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔

بال اگر کوئی عورت کنواری ہو، حالانکہ کنواریں کی زندگی گزارنا خود اسلامی
تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اسے کوئی ایسی مجبوری دریشیں ہو تو وہ عفت اور تقویٰ کی
حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کر سکتی ہے جو عورتوں کے لیے موزوں ہو۔ اسلام
اس کے کام کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرتا۔ لیکن اس کی حیثیت ایک استشار

کی ہے، اسے تمام عورتوں کے لیے عام قاعدے کی حیثیت نہیں دی جاسکتی۔

عورت کاموں کے پہلو پہلو کام کرنا اور مرد کی ذمہ داریوں کو خود اپنے شانوں پر
لینا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ائمۃ کی سنت اور ان روایات کے بالکل
مخالف ہے جو عورتوں کے مختلف حالات کے بارے میں آئی ہیں۔

یادداہی :

عورت کے ہمراکے پیچے کون سافلسف کا رہتا ہے۔ یہ بات ثابت ہونے
کے بعد کہ اسلام سے پہلے کے ادوار میں بھی ہمراکا طریقہ رائج رہا ہے، اسلام میں اس طریقہ کو
جاری رکھنے کا فلسفہ اور علت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ عقد کے معاہدے اور
رابطے کو مستحکم بنایا جائے اور شرکیہ حیات کے ساتھ رشتے کو مضبوط کیا جائے۔

اب ہر عقد کے موقع پر شرائط اور ضوابط میں اضافوں کا کیا جانا اس مضمون
کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے اور شادی کے رشتے کو مضبوط کرنے والی قوت کی اہمیت کو
 واضح کرتا ہے۔

یہ بات نہیں ہے کہ شادی خرید و فروخت جیسا کوئی تجارتی معاملہ ہے اور
معاہدہ عقد کی اصل علت، کار و باری یعنی دین ہے۔ اگر روایات میں شادی سے متعلق
خرید و فروخت کا کام استعمال ہو اب تک تو وہ محض تشبیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے زک
حقیقی خرید و فروخت کے مفہوم میں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ دشوار کے احکام میںے فروخت
کی جانے والی چیز کا تینیں اور معاملہ کو ختم کرنے کا اختیار وغیرہ کا بھی لفاظ ہوتا۔

شادی کے اس فلسفے کی بنیاد کو ہم مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے
اور مشترک طور پر دونوں کے ذمے بھی نہیں ہے انسانی معاشروں کی بہت کی بنیاد پر ہے۔
عورتیں اپنے مزاج کے سبب یا خانہ داری اور تربیت اولاد کے مشاغل کی

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

مکن بے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بخش دے بھر اس شخص کے جو یہوی کام ہر دینے سے انکار کر دے یا مردوار کی مردواری غصب کرے یا ایک آزاد انسان کو فروخت کر دے۔“ لئے

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”سب سے بدترین گناہ کسی انسان کو ناجائز قتل کرنا، عورت کا نہ رادا نہ کرنا اور مردوار کو اس کی اجرت نہ دینا ہے۔“ لئے



فصل ۱۱

دلہن کے لیے جہیز

دلہن کو جہیز دینے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اس بارے میں بلند پروازی سے کام نہیں بینا چاہیے۔ تقدیر نمائش اور فخر و غور آج کا چلن بن چکے ہیں۔ ان سے پرہیز کیا جائے۔ یہ باتیں رویہ اسلام کے خلاف ہیں۔ اسی طرح ہر کے بارے میں بھی نمائش، دوسروں کے ساتھ برابری اور جنم میں لے جانی والی مسابقت سے اجتناب

لئے بخار الانوار جلد ۱۰۳ - ص ۳۵۰ ص

لئے بخار الانوار جلد ۱۰۳ - ص ۱۴۳ ص

کیا جانا چاہیے۔ دکھاوا، ریا کاری، زیادہ سے زیادہ طلب کرنا اور دوسروں پر فخر،
جتنا، ناپسندیدہ باقی ہیں۔ بچہ ریختیاں شادی کے کام کو اور اخراجات زندگی کو بھاری
اور دشوار بنارتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ زکلتا ہے کہ کنوارے نوجوان شادی لو ایک خونفناک گرداب
سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی طرف قدم بڑھانے کی جگات نہیں کرتے۔ اس وجہ سے زنا،
ہم خود پرستی اور دوسرا براہیاں رواج پانے لگتی ہیں۔

(جو ان لوگوں کی زندگی کی راہ آغاز جوانی ہی سے شیطانی ہو جاتی ہے اور بچہ
فلک شریا نکاں دیوار طیہ حصی اسکتی چلی جاتی ہے)

ایک سنتِ الہی جس کے زندہ رکھنے کے لیے یہ ساری روایات، سخت نصیحتیں
جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بینیہ بزرگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امامؑ کی جانب سے کی
جاتی رہی ہیں تقریباً مطلع اور مغلوق ہو کر رہ جاتی ہے اور بچہ جہیز اور مہرہ سب حلال مل
سے اور شرعی طور پر جائز وسائل کے ذریعہ دیے جانے چاہیں لیکن حال یہ ہے کہ رشتہ اور
سود سے حاصل ہونے والے سرماۓ اپنے فوجشوی کے لیے موسيقی کے آلات، سونے
چاندی سے بنتے ہوئے کھانے پینے کے بتن جیسا کے جاتے ہیں۔

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث عربی میں حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں:

”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا:
”احشو اور جاؤ اپنی زرہ کو فروخت کر دو۔“ امیر المؤمنین علیہ السلام
نے فرمایا: میں زرہ لے کر بازار گیا اور اس کی فروخت سے جو
رقم حاصل ہوئی اسے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے دامن میں ڈال دیا۔ نہ آپؐ نے پوچھا کہ کتنی رقم ہے اور

ز میں نے خود بتائی۔ پھر آپ نے سمجھی بھر کر پیسے اٹھائے اور حضرت بلاں کو آواز دی اور کہا: "یہ پیسے مل جاؤ، ان سے فائز کے لیے عطا خریدو۔" پھر وہ سمجھی بھر کر پیسے اٹھائے اور حضرت ابو بکر کو دیے اور کہا: "ان پیسوں سے بس اور گھر کا سامان خرید لاؤ۔" حضرت عمر اور کچھ دوسراے اصحاب کو بھی حضرت ابو بکر کے ہمراہ کر دیا۔ ان پیسوں سے جو چیزیں خریدی گئیں وہ یہ تھیں :

(۱) ایک کرتاسات درہم کا۔ (۲) جباب کے لیے ایک چادر چار درہم کی (۳) ایک سیاہ خیری چادر (۴) ایک پلنگ جسے کھجور کی رسیوں سے ہبنا گیا تھا۔ (۵) تشك یعنی گدوں کی ایک جڑی جن کا غلاف مصری کستان کا تھا۔ ایک گدے میں کھجور کے ریشے بھرے گئے تھے اور دوسرے میں اون بھر گیا تھا۔ (۶) چارتکیے جن کے غلاف طائفت کے چرم سے بنائے گئے تھے اور ان میں اذخر کی گھاس بھری گئی تھی (۷) ایک اولی پرده۔ (۸) بھر کی بُنی ہوئی ایک حصیر۔ (۹) ایک چکنی آماپینے کے لیے۔ (۱۰) تانبے کا ایک طشت۔ (۱۱) بانی بھرنے کے لیے ایک چڑی مٹک۔ (۱۲) دو حصہ پینے کے لیے ایک پیالہ۔ (۱۳) پانی بھرنے کا ایک ڈول۔ (۱۴) ایک تار کوں پھیرا ہوا (سیاہ) لوتا۔ (۱۵) ایک گھڑا سبز رنگ کا۔ (۱۶) مٹی کے چند کوزے۔ "لے

جب اجناس سپیسبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئیں
تو آپ نے باقہ سے انھیں اور پر نیچے کیا اور فرمایا:
"اللہ اہلبیت کے لیے ان میں برکت دے۔"
دیہ اس لڑکی کے لیے ایک محقر سا جیز تھا جس کے باپ کو شیعہ علوی قدرت
اور اس تدر مقبولیت حاصل تھی کہ جس کے ساتھی سونے چاندی کی جگہ اس ذاتِ اقدس
کے قدموں پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے، لیکن اس تھی نے
اپنے والماں کو قرضن کی مصیبت میں متلاہیں کیا اور نہ مسلمانوں کے بیت المال سے کچھ یا
کیونکہ بیت المال کے اموال مسلکینوں، قیمیوں اور عام لوگوں کی فلاج و بہبود کے لیے ہوتے
ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر زمزدرو نمائش کے لیے خرچ کیا اور نہ بے جا تکلفات کا
اهتمام فرمایا اور نہ شادی کے اخراجات کے معیا کو بلند فرمایا۔ اور نہ دوسروں کے لیے مصیبت
کھڑی کی۔ آپ نے سادگی کو اختیار کیا تاکہ لوگوں کے سامنے ایک صحیح نمونہ آجائے
لیکن انہوں)

————— پہنچ —————

فضل — ۱۲ —

رات کو شادی دن میں ولیمہ

جاریت رہتے ہیں :

"جب سپیسبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ

کا حضرت علیؓ سے عقد کر دیا تو بعض لوگوں نے (دنیا پرستوں میں سے) اعتراض کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت علیؓ کو بہت معمولی چہرہ دے دی۔ حضورؐ نے جواب میں فرمایا: پیشاوی میرے اختیار میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زہرا کا غلیظ کساتھ عقد کیا ہے۔

شاریؓ کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیدہ سیاہ خچر منگوایا اور اس پر ایک شال ڈال کر فاطمہ سے سوار ہونے کے لیے فتح میا اور سلمان سے کہا کہ خچر کی لگام کبڑ کر چلو اور آپ خود اس کے سچھے چلتے رہے۔ اثنائے راہ میں آپ کو کسی چیز کے اوپر سے اڑنے کی اولنگ آئی۔ آپ نے دیکھا کہ جبڑل اور مبکا نیل نازل ہو رہے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے۔ آپ نے ان سے نازل ہونے کی وجہ پر چھپی۔ انھوں نے کہا: ہم زہرا کو حضرت علیؓ کے گھر پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس موقع پر جبڑل اور مبکا نیل نے حضورؓ کی مددست میں مبارکاب پیشیں کی اور فرشتوں نے صدائے تکبیر بلند کی۔ اسی بناء پر اسلام میں دہن کے جاتے وقت تکبیر بلند کرنے کی سنت جاری ہوئی۔“ لئے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی میر سے فرمایا:

”یہ رات کے وقت شادی کر، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات کے وقت کسی کام سے زنگل کیونکہ رات تاریک ہوتی ہے۔ البتہ اگر تیراں کوئی دوست یا حاجت رات کے وقت تیرا دروازہ کھلا دھانے نواس کی حاجت پوری کرنے کے لیے تجھے ضرور بامہ آنا پڑے کیونکہ دوست اور رات کے وقت دروازہ کھلا دھانے والا حاجت مند پیارا حق رکھتا ہے (کیونکہ رات کے وقت کسی کا تیرے پاس آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئے والا کسی مصیبیت میں مستلا ہے یا اسے شدید قسم کی حاجت درپیش ہے)۔“ لئے

حضرت امام جaffer صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:
”ولہن کو رات کے وقت اس کے شہر کے گھر پہنچاو اور دن کے وقت دلپیہ دو۔“ لئے

حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں:
”رات کے وقت شادی پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور خور غورت بھی سکون اور آرام کا ذریعہ ہے۔“ لئے

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”رات کو جا گنا جائز نہیں ہے بجز میں موافق کے یہے۔“

تلادت فتنہ ران کی خاطر بتحصیل علم کے لیے اور دہن کو
اس کے شوہر کے گھر لے جاتے کے لیے "اے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں :
"اگر کسی سے مختار اکام انکا ہوا ہے تو اس کے پاس
دن کے وقت جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں حسیا
رکھی ہے۔ (جب تم کسی کے سامنے جاؤ گے تو وہ حسیا کی
وجہ سے مختاری حاجت کو روشنیں کر سکے گا) اور اگر تم زہن
کو گھر لانا چاہو تو رات کے وقت شادی کر کے اسے اپنے
گھر لاو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات آدم کے لیے بنائی ہے" اے
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں :

"اللہ تعالیٰ نے رات اور ہبھی دنوں کو وہ آرام رکون
بنایا ہے، اس لیے رات کو شادی کرنا اور دن میں ولیست ہے" اے

جاہر بن عبد اللہ کہتے ہیں :

"حضرت فاطمہ زہراؓ کی شادی کی رات پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیؑ کو مطلب فرمایا اور انہیں اینی
داہنی جانب سُجایا۔ پھر اپنے نے حضرت فاطمہؓ کو بایا اور اپنی
بائیں جانب سُجایا۔ پھر دنوں کے سر ایک دوسرے سے

ترسیب کر دیے۔ پھر اپنے دلوں کے ساتھ اٹھئے اور علیؑ کے
گھر کی طرف رواز ہوئے۔ اس موقع پر جبریل نے فرشتوں
کے چوہم کے دریان تکمیر بلند کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم اور مسلمانوں نے بھی تکمیر بلند کی۔ اور یہ سپلی تکمیری قی جو
کسی شادی کی رات بلند کی گئی۔ اس طرح ایک اسلامی طریقے
کا نتیاجہ ہوا۔" اے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا:

"عبد المطلب کی روزگاریں اور جہا جرو انصار کی خواتین
حضرت زہراؓ کے پیچے چلیں، خوشیاں مناہیں، اشعار
پڑھیں، اشداء کیس اور الحمد للہ کہیں اور کوئی ایسی چیز نہ کہیں جس
سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔" اے

فصل — ۱۲

یہ شادیاں

ایج دنیا کے اکثر ممالک میں یہ طریقہ رائج ہے کہ شادی کے دنوں میں جس

فتد رہو سکے ہو و لعب۔ گانے بجانے، مشراب پینیے اور جو آخیلے کا اہتمام کیا جائے ان موقع پر عورت مرد اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ خلط مالط ہوتے ہیں کہ تم دن بھرم، اپنے اور ہیکا نے کی کوئی تیزی نہیں رہتی۔ گناہ اور معصیت کے کام کمی حذر چاکر نہیں رکتے لیکن وہ توگ جو اللہ پر اور آخرت پر نیقین رکھتے ہیں۔ انھیں ایسے تمام گناہوں اور مشاغل سے احتساب کرنا چاہیے جو عقل و دین کے خلاف ہیں۔ اپنے یہے اور اپنے خذلان کے یہے آخرت کا عذاب نہ خریدیں اور اس بات کو اپنی طرح سمجھو لیں کہ جس کام کی نبیاد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اتنا کام ہیں کوئی تیزی برکت نہیں ہوتی۔

جس شادی کا آغاز خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے ہو وہ شادی کبھی بارکت نہیں ہوگی۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”شادی کی خفل میں شرکت کے لیے عجبت سے کام نہ لو
کیونکہ یہ چیز تھیں دنیا کی طرف مائل کرے گی۔ البتہ جنازہ
میں جانے کے لیے عجبت اور تیزی سے کام نہ کر یہ چیز تھا
ولوں میں آخرت کی باد تازہ کرے گی۔“^۱

فصل — ۱۲

بیوی سے محبت کرو اور اس محبت کا ان پر انہار کو

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے
کہ اس نے خود مختاری جنس میں سے مختارے لیے ہیا اس
پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور عورت دمرد
کے درمیان محبت کا رشتہ استوار کیا۔ اس میں سمجھو بوجھ رکھنے
والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“^۲

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”محبے مختاری اس دنیا میں صرف دو چیزوں پسند
ہیں ایک عورت اور دوسرے خوشبو۔“^۳

نیز آپ نے فرمایا:

”اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا
ہوں تو یہ بات ہرگز اس کے دل سے نہیں نکلے گی۔“^۴

۱۔ سورہ روم ۳۰۔ آیت ۲۱

۲۔ وسائل۔ ابواب المقدمات۔ ب ۳۔ خبر ۴

۳۔ وسائل۔ ابواب المقدمات۔ ب ۳۔ خبر ۹

۴۔ بحاجۃ الانوار جلد ۱۰۳ صفحہ ۲۸۶۔ ب

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
”بیویوں کے ساتھ محبت پنگیروں کے اخلاق میں
سے ہے۔“ اے

”اپنی بیوی کی محبت جس قدر انسان کے دل میں ہوگی
اسی قدر اس کی بزرگی اور اس کا ایمان زیادہ ہو گا۔“ اے

توصیح :

اگرچہ ان روایات میں عورت کے ساتھ محبت کرنے کی تعریف کی گئی
ہے لیکن اس سے مفہوم دیہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کو حکم انی حاصل
ہے۔ اور زندگی میں سر و همہ اور خشکی پیدا نہ ہو۔ تاکہ خاندان خلوص اور صفائی
ہر وہ مندرجے اور ازدواجی زندگی کا مقدس رشتہ نہ ٹوٹنے پائے۔

تاہم مرد کو عورت کا اس قدر شفیقت اور دلیوان نہیں ہونا چاہیے کہ دروبت
کا سلا احتیار اس کے باٹھ میں دے دے۔ ایک نلام کی طرح اس کا ہر حکم سجالائے اپنی
اور اپنے بچوں کی بآگ ڈوار اس کے ہوس آکو دہ سرکش باتھوں میں دیدیے۔ کیونکہ
عورت کے ساتھ محبت اور شفیقتی میں اس قدر افراط کی شرخ میں میں مذمت کی گئی ہے
اور سختی کے ساتھ مخالفت کی گئی ہے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں :

”یعنی چیزیں فتنے کا سبب ہیں۔ عورت کی محبت

کہ جو شیطان کی تلوار ہے، شتاب کہ جو شیطان کا جال ہے،
درسم و دنیار کی دوستی جو شیطان کا تیر ہے۔ (یعنی عورت
کے ساتھ ایسی محبت جو انسان کو گناہ میں مبتلا کر دے)“ اے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
”پہلی چیز جو خدا کی نافرمانی کا سبب بھی چھ چیزوں میں
سے ایک سختی اور وہ عورت کی محبت سختی“ اے

نیز آپ نے فرمایا :

”مومن پر کاری ترین ضرب لگانے والا دشمن“ بُری
شرکیب حیات ہے“ اے

—————
بُری

فصل — ۱۵

نسل کی افزائش

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
”اپنی اولاد میں اضافہ کرو۔ مل میں قیامت کے روز دوسری

- ۱۔ وسائل۔ ابواب المقدمات النکاح۔ باب ۳ - خبرہ
- ۲۔ وسائل۔ ابواب المقدمات النکاح۔ باب ۴ - خبرہ
- ۳۔ وسائل۔ ابواب المقدمات النکاح۔ باب ۴ - خبرہ

۱۔ وسائل۔ ابواب المقدمات۔ باب ۳ - خبرہ

۲۔ وسائل۔ ابواب المقدمات۔ باب ۴ - خبرہ

ملتیوں کے درمیان تھماری دشت پر نجف رکروں گا۔^{۲۷} اسے
”قیامت کے روز ایک باپ اپنے اس میٹے کو دستیے کا
جو اپنی ماں کے استقلالِ حمل کی وجہ سے شکرِ مادر بھی میں بلائے
ہو گیا تھا۔ یہ بیٹا بہشت کے دروازے پر منتظر رہا باپ کے
انتظار میں کھڑا نظر آئے گا جب وہ اپنے باپ کو دیکھے کا تو
اس کا باختہ کپڑہ کراسے جنت میں مے جائے گا۔ اگر منحصراً
فرزند کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تھیں اس کا اجر دے گا
اور اگر وہ زندہ رہا تو تھمارے وفات پا جانے کے بعد تھماری
مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے گا۔^{۲۸}“ کے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلم سے فرمایا:
”بچہ جننے والی ماں ایک روزہ وار و شب بیدار چھپ
کی رامن اور ایسے سپاہی کے ماندہ جو اسلام کی ترقی کی رہ
میں اپنی جان و مال شارکتا ہے جب بچہ بیدار ہوتا ہے تو
ماں کو اس قدر راجدیا جاتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کوئی نہیں جانتا۔ جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو
بچے کے ہر گھونٹ پر ماں کو نسل اسماعیل کے ایک غلام کو
آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے جب بچے کو دودھ پلانے کی

مدت ختم ہوتی ہے تو ایک معزز فرشتہ ماں کے پیڈکر تھی پہاڑتے
ہوئے کہتا ہے : بچہ سے اپنی جدوجہد کا آغاز کر، تیر سے تمام
گناہ بخشنے گئے۔^{۲۹}“^{۳۰}

یادوں باñی

اس روایت میں گناہوں کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے
لیکن دوسری روایات سے استفادہ کرتے ہوئے اس روایت کے مفہوم کو واضح کیا
جاسکتا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ بخشش کا تعلق حقوق اللہ سے ہے حقوق انسان
سے نہیں، یعنی کوئی نکل لوگوں کا حق خود لوگوں کے جرام سے وابستہ ہے۔ دوسری بات یہ
ہے کہ اس روایت میں صیفرو اور کسیرہ گناہوں اور کسیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے
گناہ کے درمیان فرق نہیں تباہی گیا۔

احتمال یہ ہے کہ بخشش کا تعلق چپڑے گناہوں سے ہو، اگرچہ سارے
گناہوں کا بخشا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :

”فرزند کی بیماری ماں باپ کے گناہوں کے لیے
کفارہ ہے۔^{۳۱}“^{۳۲}

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں :

لئے وسائل : ابواب الاولاد باب ، خ ۱
ئے وسائل : ابواب الاولاد باب ۱ خ ۱۲

لئے وسائل : ابواب المقدمات انتکاح ب ۱ خ ۸
ئے وسائل : ابواب المقدمات انتکاح ب ۱ خ ۱۳

”مرد کی خوش نسبی یہ ہے کہ اس کے فرزند ہوں اور مشکلات میں اس کی مدد کے لیے اٹھ گھرے ہوں۔“^۱

حضرت امام حبیر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”ایک شخص نے تباہا کر مجھے اپنے بیٹے سے کوئی محبت نہیں رکھتی۔ ایک روز میدانِ عرفات میں، میں نے دیکھا امیر پہلو میں ایک جوان دعا میں مشغول ہے۔ اس کے آنسو بہہ ہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ میرے باپ کو، اے اللہ میرے باپ کو، اس منظر کو دیکھ کر میں اپنے بیٹے سے محبت کرنے لگا۔“^۲

لوگ کہتے ہیں کہ حسن بصری نے ایک بار کہا :

”فرزند ایک برقی چیز ہے۔ اس کی زندگی سے ازیت سہنپتی ہے اور اس کی موت ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔“

یہ بات جب حضرت سجاد علیہ السلام کے کانوں میں سہنپی تو اپنے فرمایا : سخدا انہوں نے سچ نہیں کہا۔ فرزند ایک اچھی چیز ہے اگر وہ زندہ ہے تو دعائے نقد ہے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ ایک ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو باپ سے پہلے سہنپ چکا ہے۔“^۳

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”فرزندِ مومن کے جگہ کامکڑا ہے، اگر وہ جلد اس دنیا سے خصت ہو جائے تو وہ باپ کے لیے شفیع ہو گا، اگر دیر سے وفات پائے تو باپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔“^۴

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشت بن قبیس سے فرمایا :

”کیا حمزہ کی بیٹی سے بختارا کوئی فرزند ہے؟“ انہوں نے کہا : میرا ایک بیٹا ہے، اگر اس کی بجائے میرے پاس ایک پیارا ہوتا تو میرے لیے بہتر ہوتا ہے اسے اپنے نہان کے سامنے تو رکھ سکتا۔“ آپ نے فرمایا : ”تم یہ کیا بات کہہ رہے ہیں فرزند ایک دل پسند میرہ ہیں، آنکھوں کی روشنی ہیں، اگرچہ وہ خوف، سخن اور غصہ کا بھی سبب بنتے ہیں۔“^۵

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

”جو شخص بھی اپنے بیٹے کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے وہ خدا کے خون سے رونے والے کی مانند ہے اور جو شخص بھی خدا کے خون سے روتا ہے پروردگار اسے نعمت سے بھری بہشتوں میں داخل کرتا ہے۔“^۶

۱۔ ۲۔ مسدر ک ابوبالاولاد باب ۱ خ ۸ - ۹

۳۔ مسدر ک ابوبالاولاد باب ۱ خ ۱

۴۔ ۵۔ وسائل۔ ابواب الاولاد باب ۱ خ ۲ - ۷

۶۔ مسدر ک ابوبالاولاد باب ۱ خ ۷

حضرت امام حجف سادق علیہ السلام آدم و حوا کی حکایت میں فرماتے ہیں :

” حوانے کہا اے اللہ، آپ نے جو کچھ آدم کو محبت فرمایا
جسکے بھی عنایت فرمائیے ۔ ارشاد ہوا : میں نے تجھے جیا، رحم،
اور محبت دی ۔ اگر تو اس پہنچ رہنے والے ثواب اور ابدی
نعمتوں اور طریقی سلطنت کو دیکھے گی جو میں تجھے عنسل اور دروزہ
کے برداشت کرنے کے بعدے دون گا تو تیری انکھیں خوشی سے
چمک انھیں گی ۔ اے حوا ! جو بھی عورت وضع محل کے دقت
ہلاک ہو گی میں اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھاؤں گا
ہر وہ عورت جو دروزہ میں مبتلا ہوتی ہے وہ ایک شہید
کا اجر رکھتی ہے ۔ اگر وہ سلامتی کے ساتھ باولاد ہوتی ہے میں
اس کے گناہ بخشن دوں گا اور اگر دروزہ کے دوران وہ جان
دیدے تو اس کی روح تعفیٰ ہوتے وقت ملائکہ حاضر ہوں گے
اور اسے بہشت کی بشارت دیں گے اور آخرت میں وہ اپنے
شہر کے ساتھ دوبارہ زندگی کا آغاز کرے گی اور وہ بہشت
کی حوروں سے ستر گناہ زیادہ خوبصورت ہو گی ۔ ” حوانے
یہ سُن کر کہا : یہ میرے لیے کافی ہے ۔ ” اے البتہ یہ سارا
اجرا یمان کے ساتھ مشروط ہے ۔ ایمان اگر مجبود ہو تو اس
اجر و ثواب کا ملنا بعید از امکان نہیں ۔ ” ۲۷

سپغیمِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

۱۳۶ مسند ک . ابواب الالواد باب ۹ خ ۱

” جو بھی نمولود میری امت میں پیدا ہوتا ہے وہ مجھے ہر
اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوخ ہو ۔ ” ۲۸

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں :

” جو مرد موت سے پہلے اپنے جانشین کو دیکھ لتا ہے وہ
خوش نسبب ہے ۔ ” ۲۹

بزر بن صالح نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے نام خط میں لکھا :

” میں اگر شتم پانچ سال سے ضبط ولارت پر عمل کر رہا
ہوں ۔ چونکہ میری بیوی بچے پیدا کرنے کو ناپسند کرتی ہے اور
کہتی ہے ۔ تم مغلام ہیں ، اولاد کی پرورش ہمارے لیے دشوار
ہے ۔ آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں ؟ ” حضرت نے
جواب میں لکھا : ” اولاد پسند کرو ، اولاد کا رزق اللہ کے
ہاتھ ہیں ہے ۔ ” ۳۰

مرحوم صدوق نے فرمایا :

” حدیث میں آیا ہے جو شخص جانشین کے لبیر فوت ہوا
گویا وہ کبھی دنیا میں تھا ہی نہیں اور جو اپنا جانشین چھپڑ کر
دنیا سے رخصت ہوا گویا وہ مراہی نہیں ۔ ” ۳۱

- ۱۔ مسند ک ابواب المقدمات باب ۱ خ ۹
- ۲۔ مسند ک ابواب المقدمات باب ۱ خ ۹
- ۳۔ مسند ک ابواب المقدمات باب ۳ خ ۱
- ۴۔ مسند ک ابواب المقدمات باب ۱ خ ۱

پنجم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

”بچھے دینے والی خورت سے نکاح کر و خواہ وہ بخورت
ہی کیوں نہ ہو اور بانجھ خورت سے شاری نہ کر و خواہ وہ جسین بی
کیوں نہ ہو، میں قیامت کے روز دوسری ملتوں کے مقابل
سمتحاری کثرت کو رکھ کر فخر کروں گا۔“ ۱۷

”کیا تجھے نہیں معلوم کہ فرزند (جو کم عمری میں استقال
کر گئے) عرشِ خدا کے نیچے اپنے باپوں کے لیے مغفرت طلب
کرتے ہیں اور وہ حضرت ابراہیمؑ کی کفالت میں اور حضرت
سارہؓ کی زیرِ تربیت ہیں۔“ ۱۸

حضرت امام حفیظ صادق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے نقشے
میں فرماتے ہیں :

”آپ نے اپنے بھائیوں کے خیر مقدم کے لیے ایک دعوت
کا اہتمام کیا اور جب تمام بھائی آگئے تو حکم دیا کہ وہ سارے
بھائی جو ایک ماں کی اولاد ہیں ایک دستِ خوان پڑھیں۔
وہ سب پڑھ گئے لیکن بن یامین ”تہوار“ گئے یوسف علیہ السلام
نے فرمایا: ”تم دستِ خوان پر کیوں نہیں مٹھے؟“ انہوں نے جواب
دیا: میرے ان بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کی بھی ماں

بیوی ماں نہیں ہے؟“ پھر یوسف علیہ السلام نے پوچھا: ”تھا یا
ماں کا کوئی دوسرا بھائی نہیں تھا؟“ بن یامین نے جواب دیا:
”کیوں نہیں؟“ فرمایا: ”پھر وہ کہاں ہے؟“ بن یامین
نے کہا: ”میرے بھائی کہتے ہیں کہ اسے تو بھیریے نہ پھر بھار
دیا تھا۔“ آپ نے فرمایا: اپنے بھائی کو نہ پاک تھیں کس قدر
رجح ہوا؟“ بن یامین نے جواب دیا: ”مجھے تنازع نہ ہوا اکی میں
نے اپنے گیارہ بھوؤں کے جو نام رکے ان میں سے ہر ایک نام اپنے
گم شدہ بھائی کے نام سے مشتمل تھا۔“ یوسف علیہ السلام
نے فرمایا: معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے گم ہونے کے بعد
تم نے شادی کی اور پھر صاحب اولاد ہو گئے“ جواب دیا:
”جی! ماں! میرا باب ایک صالح شخص تھا۔ اس نے مجھے علم
دیا کہ میں شادی کرلوں بلکہ یہ بھی کہا کہ تیرے صلب سے
اشد تعالیٰ ایک نسل پیدا کرے گا جو اللہ کے ذکر سے ساری
زین کو بھروسے گی۔“ ۱۹

سن رسیدہ عورتوں سے جرأۃ اولاد سے مایوس ہو
چکی میں یا بانجھ عورتوں سے شادی نہ کر۔ میں قیامت کے
روز تمحاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا۔“ ۲۰

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے :

۱۷۔ مستدرک ابواب المقدمات باب ۱۵ خ ۲
۱۸۔ نکاح المستدرک باب ۱۵ - خبر ۲

۱۹۔ مستدرک ابواب المقدمات ب ۱۵ خ ۱
۲۰۔ مستدرک ابواب المقدمات ب ۱۵ خ ۱

جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار اور نمازگزار کا ثواب عنایت فرماتا ہے اور جب وہ درد زد سے دوچار ہوتی ہے تو اس وقت اسے جواہر ملتا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جب بچہ تولد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچہ کے ہر گھونٹ کے بعد ایک نیکی ماں کے حساب میں لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ۱۷

فصل — ۱۶ —

بیٹی کی ولادت

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلوں چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پنی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھترتا ہے کہ اس بُری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے سوچتا ہے کہ ڈالت کے ساتھ بیٹی کو لیئے رہے یا مٹی میں

ذبادے۔ دلخیو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ ۱۸

ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سمجھا ہوا تھا۔ کسی نے آگرا سے بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اس نبیر کے سنتے ہی اس شخص کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

“کیا بات ہے؟”

اس نے کہا:

“جی ٹھیک ہے۔”

آپ نے فرمایا:

“کہو آخر کیا بات ہے۔”

اس شخص نے جواب میں کہا

“جب میں ٹھرسے روانہ ہوا تھا تو میری بیوی وضع حمل کی نیفت سے دوچار تھی۔ اب مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے ہاں اڑکی تولد ہوئی۔”

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

“زین بارش کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آسمان اس پر سایہ کرتا ہے خدا اسے روزی دیتا ہے اور پھر تم کچھ ریکاں کے پورے بوتے ہو۔” ۱۹

۱۸ سورہ سُلَم - آیت ۵۹

۱۹ وسائل۔ ابواب احکام الادار باب دخن ۲

"لڑکی اپنی اولاد بے، مہربان، ہمدرد، مبارک
اور بچوں کی پرورش کرنے والی۔" ۱۷

"اللہ تعالیٰ لڑکیوں پر سبیت زیادہ مہربان ہوتا ہے، پھر
لڑکوں پر، ہر وہ شخص جو اپنے رشتداروں میں سے کسی غافل
کو خوشنش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوش
کر دے گا۔" ۲۸

"تحاری بہترین اولاد لڑکیاں ہیں۔" ۲۹

"وہ عورت جس کی سب سے پہلی اولاد لڑکی ہو وہ
مبارک عورت ہے۔" ۳۰

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:
"جو شخص تین لڑکیوں، دو بہنوں یا دو بھوپھیوں
کی پرورش کرے گا اسے آتشِ دوزخ سے بچایا جاتا ہے۔" ۳۱

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں

۱۷۔ وسائل ابواب احکام الولاد باب ۲ خ ۲
۱۸۔ وسائل ابواب احکام الولاد باب ۷ خ ۱

۱۹۔ مکام الاخلاق

۲۰۔ نوادراز اونڈی

۲۱۔ وسائل ابواب احکام الولاد باب ۵ خ ۲

"جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکی کی
ولادت کی خوشخبری دی جاتی تھی آپ فرماتے: رسیحانہ
(ایک خوشبودار گھاس) ہے، اس کو خدا روزی دے گا
اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔" ۱۶

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:
"جو شخص دو یا تین لڑکیوں کی سرپرستی کرے گا۔
وہ بہشت میں میرا تم نہیں ہو گا۔" ۱۷

توضیح:

ابتدا اس کے لیے ایمان شرط ہے اور دوسرے دینی فرائض کا انعام دنیا
محبی شرط ہے اور ثالثہ طیکہ اس نے اپنی لڑکیوں کی اسلامی تربیت کی ہو اور انھیں
صالح خواتین بنائ کر معاشرہ کے حوالہ کیا ہو۔ اس صورت میں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا جنم نہیں ہو گا۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی لڑکی کی بڑی
عمارتہ تربیت فرمائی تھی۔ اور آپ کی نئی آپ کی صاحبزادی کے ذریعہ ہی باقی رہی۔

"جو شخص لڑکی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت برکت
اور اس کی بخشش اس شخص کے شامل حال ہوتی ہے۔" ۲۰

"جو شخص تین لڑکیوں کی سرپرستی کرتا ہے، اسے

۱۶۔ مستدرک ابواب الولاد ب ۳ خ ۱

۱۷۔ مستدرک ابواب الولاد ب ۳

۱۸۔ مستدرک ابواب الولاد ب ۳

بہشت میں قین باغ ملیں گے جن میں سے ہر باغ دنیا
سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کشادہ ہو گا۔“ اے
” اڑکی اچھی اولاد ہے، جو شخص ایک اڑکی رکھتا ہے
وہ اسے جہنم سے بچاتی ہے، جو دلوڑکیاں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ
اے جنت میں داخل فرادیتا ہے اور جو شخص قین اڑکیوں
یا قین بہنوں کی کفالت کرتا ہے اسے جہاد اور صدقے سے
معافی دی گئی ہے۔“ ۲۷

توضیح :

کیونکہ انلیب یہ ہے کہ وہ عیال دار ہوا اراس کے لیے کوئی روزی ملائے
والانہ ہوا اراس پر روزی کا کمانا اور تلاش کرنا واجب ہے جبکہ کبھی واجب
کفایہ یا مستحب ہوتا ہے اور نکوئہ واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔

پغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ:
” اللہ تعالیٰ نے تھیں ایک بیٹی عطا فرمائی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب لے چھروں پر نظر ڈالی
آپ نے دیکھا کہ ان کے چھروں پر کراہت اور پریشانی کے
آنمار نہیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
” کیا بات ہے؟ میں ریحان (خوشبووار گھاس) کے ماندہ
ہے جسے جم بوتے ہیں اور اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔“ ۲۸

۱۷۔ مستدرک ابواب الاولاد ب ۵ خ ۱
۱۸۔ مستدرک ابواب الاولاد خ ۲ خ ۲

” اگر کوئی شخص بازار جائے اور کوئی تخفہ اپنے اہل د
عیال کے لیے جن بیدار لائے، وہ اس شخص کے ماندہ
ہے جو کوئی صدقے کی حاجت مندوں کے پاس جاتا ہے
اور اسے چاہیے کہ اڑکیوں کو اڑکوں پر مقدم رکھ کیونکہ جو
نجی بیٹی کو خوش کرتا ہے گویا اسماعیل کی نسل کے کسی
غلام کو آزاد کرتا ہے۔“ ۲۸

” اگر کوئی شخص ایک بیٹی رکھتا ہے اور وہ خود اسے
اپنے گھر سے نہ لے، اس کی اہانت نہ کرے اور بیٹوں کو
بیٹیوں پر ترجیح نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں
داخل فرمائے گا۔“ ۲۹

حسین بن سعید فرماتے ہیں :

” ایک شخص کے ہاں اڑکی تولد ہوئی۔ وہ حضرت
امام حبغزادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جو حضرت
نے اسے رنجیدہ پایا۔ آپ نے اس سے پوچھا : اگر خدا تجوہ
سے دریافت کرے کہ تیرے یہ اولاد کا انتخاب میں کوئی
یا تو خود انتخاب کرے گا تو تیرا جواب کیا ہو گا؟ اس شخص
نے کہا : میں کہوں گا یا اللہ میرے یہ اولاد کا انتخاب
تو خود فرمائے۔ اس پر آپ نے اس شخص سے کہا : پھر

۱۹۔ مستدرک ابواب الاولاد ب ۵ خ ۱
۲۰۔ مستدرک ابواب الاولاد خ ۲ خ ۲

کیا بات ہے تیرے لیے اولاد کا انتخاب اللہ جی نے کیا ہے
مچھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے نصیحت
کرتے ہوئے فرمایا : جب موسیٰ علیہ السلام کے دانش مند
رینٹ سفر نے ایک رٹ کے کو قتل کر دیا تو انہوں نے اس
رٹ کے ماں باپ کو اس کے عومن ایک رٹ کی عنایت فرنائی
جس کی اس سے ستر پیغمبر پرداہ ہوئے۔ جیسا کہ سورہ کعبت
آیت ۸ میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے (فَإِذَا
أَنْبَدْتِ لَهُمَا رَبَّهُمَا حَيْثُ أَمْتَهُ رُكْوَةً
وَأَقْرَبَ دُخْمًا) (ترجمہ : اس یہے ہم نے چاہا کہ ان کا
رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی
اس سے بہتر ہو اور جس سے صد رحمی بھی زیادہ متوقع ہو) ۱۷

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (راشرِ مخلوقات)
چند رٹکیوں کے باپ تھے“ ۱۸


ایک شخص اپنی رٹکیوں کے بارے میں غصناک مخاوا را ادا
جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نالہ و فریاد کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا :
”کیا تھے معلوم نہیں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا : جب میں شبِ معراج میں سدرۃ المنتہی سے

۱۷۔ مستدرک ابوبالاولاد ب ۵ خ ۸ - ۶
۱۸۔ مستدرک ابوبالاولاد ب ۶ خ ۱

آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خطاب فرمایا : ”اے محمد !
رٹکیاں رکھنے والوں سے کہہ دوان فونہا لوں کے بارے
میں غلگین اور دل تنگ مت ہو۔ میں نے انہیں پیدا کیا
ہے اور میں ہی انہیں روزی دوں گا۔“ ۱۹

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :
”بیٹی حسنہ ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ حسن کے لیے
ثواب ہے اور نعمت کا حساب لیا جائے گا۔“ ۲۰

”ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کی خدمت میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میری اتنی رٹکیاں
ہیں۔ حضرت نے فرمایا : یہ ایسی بات ہے جیسے تو ان کی مت
کا منتظر ہے۔ اچھی طرح جانے اگر تو پیٹے دل میں ان کی مت
کی آرزو یہ رہا اور وہ مرگیں تو قیامت کے روز تھے کوئی
ثواب نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ سے ایک گناہکار کی صورت
میں ملاقات کرے گا۔“ ۲۱



۱۹۔ مستدرک ابوبالاولاد ب ۵ خ ۸ - ۶

۲۰۔ مستدرک ابوبالاولاد ب ۶ خ ۱

بیوی ہے، میں نے اپنی لونڈی کے ساتھ خلوت کی تھی،
میری بیوی کے میری تبیہ کی خاطر میرے لیے رسول کا
یہ سامان کیا：“آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
اسے لے جاؤ جب عورت کی غیرت جوں میں آتی ہے تو
وہ پھر نشیب فراز کو نہیں دیکھتی۔”^۱

پسیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”بہشت کی خوبی پانچ سو سال کی راہ سے بھی داغ
تک پہنچتی ہے لیکن باپ اور ماں کے عاق کیے ہوئے اور
دیوث تک پہنچتی۔“ لوگوں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیوث کے کہتے ہیں؟ ”آپ نے
فرمایا: ”وہ مرد جس کی بیوی زنا کی مرتبہ ہوتی ہو اور وہ اس
سے باخبر ہو۔“ (یعنی وہ اس کے خلاف کوئی رو عمل ظاہر
نہیں کرتا) ^۲

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:
”عورت کی غیرت (اس کا شوہر دوسرا شادی کرے
عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی) دراصل خدا کے حکم کی
مخالفت ہے اور مرد کی غیرت اس کا ایمان ہے۔“ ^۳

- ۱۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح ب ۷۰ خ ۲
- ۲۔ وسائل ابواب المقدمات النکاح ب ۷۷ خ ۹
- ۳۔ وسائل ابواب المقدمات النکاح ب ۷۰ خ ۸

فصل — ۱

مرد کے لیے غیرت و عورت کیلئے غیرت و انہیں

پسیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”میرے باپ ابراہیم علیہ السلام غیرت مند تھے اور
میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس موسم
کی ناک کو خاک میں آکو وہ فرمائے جو غیرت ناموس نہ
رکھتا ہو۔“ ^۴

ابن الی عمر رضیتے ہیں :

”رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فماتھے
اچانک ایک عورت عربیاں دبرندہ داخل ہوئی، حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکھڑی ہو گئی اور اس نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں نے زنا
کیا ہے مجھے پاک فرمائیے“ (یعنی حد نافذ فرمائیے) اس
اشنا میں ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور اس عورت پر
چادر ڈال دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست
فرمایا: کیا ماجرا ہے؟ ”اس شخص نے عرض کی: یہ میری

- ۱۔ وسائل ابواب المقدمات النکاح ب ۷۷ خ ۸

آنجناب علیہ السلام بی کا ارشاد ہے :

”اللہ تعالیٰ مومن کے لیے غیرت مند ہے۔ مومن کو بھی اپنے لیے غیرہ ہونا چاہئے۔ (اللہ تعالیٰ نے جب اس کی ناموس کی حفاظت کی ہے تو اسے بھی اس کی حفاظت کرنی چاہئے) ورنہ اس کا بدل ایمان سے خالی ہو گا۔“ ۱۷

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں :

”اللہ تعالیٰ نے غیرت عورت کے لیے نہیں رکھی ہے بلکہ اسے مرد کے لیے مخصوص فرمایا ہے جیسا کہ مرد کے لیے چار بیویوں کا رکھنا اور اسی طرح لونڈی حلال کی لگتی ہے لیکن عورت کے لیے ایک سے زائد مرد حلال نہیں، اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرے تو وہ خدا کے نزدیک زنا کا رقرار پائے گی۔ بے ایمان عورتیں، (بیویوں کی تعداد کے بارے میں) غیرت کا انعام کرتی ہیں لیکن جو عورتیں احکام خدا پر یقین رکھتی ہیں وہ اس طرح کی غیرت میں نہ لانہیں ہوتیں۔“ ۱۸

آنجناب نے بھی فرمایا :

”چند قیدی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت

میں لائے گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا اور ان میں سے صرف ایک کو معاف فرمادیا۔ اس شخص نے پوچھا: مجھے آپ نے کیوں آزاد فرمادیا؟ آپ نے فرمایا: جب تک اللہ تعالیٰ کے پاس سے دھی نے کر آئے اور مجھے بتایا کہ تجھ میں پائی ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسولؐ کو پسند ہیں :

غیرت ناموس ، سخاوت ، خوش اخلاقی ، سچ بونا ، اور شجاعت ۔ اس قیدی نے جب ان اعجاز آمیز ماتوں کو ستاروں پہت متاثر ہوا اور ایمان لے آیا اور دن پر ثابت قدم رہا ، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔“ ۱۹

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے :

”عورت کی غیرت دراصل حسد ہے اور حسد کفر کی جڑ ہے۔ جب عورت کی غیرت بیدار ہوتی ہے تو وہ غصہ میں آتی ہے اور جب وہ غصہ میں آتی ہے تو کفر و ناشکی اختیار کرتی ہے۔ لیکن مسلمان عورتیں ایسی نہیں ہوتیں۔“ ۲۰

حضرت امام حافظ صادق علیہ السلام نے فرمایا :

”اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے اور غیرت مند کو پسند فرماتا ہے

۱۷ دسائلی ابواب المقدمات النکاح ب، خ ۶-۷

۱۸ دسائلی ابواب المقدمات النکاح ب، خ ۸-۹

۱۹ دسائلی ابواب المقدمات النکاح ب، خ ۱۳۷-۳

۲۰ دسائلی ابواب المقدمات النکاح ب، خ ۱۰-۱۱

اور غیرت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے کاموں کو حصے
زن اور ہم جنس پرستی) خواہ وہ حبپ کر کیے جائیں یا علانہ
انجین حرام قرار دیا ہے۔^۱

انجناٹ نے یہ کہی فرمایا:

”اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا اپنی کنیز کے ناجائز تعلقات
سے واقف ہو جائے اور پھر کہی کوئی تدیریز کرے۔ اللہ
تعالیٰ چالیس دن تک اسے مہلت دیتا ہے اس کے بعد
روح ایمان اس سے چھین لیتا ہے۔ اور ملائکہ اس کا نام
دیکھ رکھ دیتے ہیں۔“^۲

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:

”اگر کسی گھر میں چالیس دن تک کانا بجانا جائز رہے
اور لوگ وہاں آتے جاتے رہیں تو شیطان صاحب خاز کے
جسم اور اعضا میں گردش کرنے لگتا ہے اور کچھ اس کے بعد
اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے اور اس حد تک کہ
اگر اس کی خواہیں پرکھی کوئی دست درازی کرے تو وہ
اپنی جگہ سے نہیں بلتا۔“^۳

ایک شخص نے امام حبیر صادق علیہ السلام کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کی

۱۔ وسائل ابواب المقدمات النکاح ب، خ ۲۷

۲۔ وسائل ابواب المقدمات النکاح ب، خ ۲۸

۳۔ نکاح المستدرک باب ۵ خبر ۱-۳

حضرت نے فرمایا:

”کیا کبھی تو نے اس کی غیرت کا امتحان بیا؟“ اس نے
کہا: ”جی نہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”اس کی غیرت کا
امتحان لے۔“ وہ شخص گیا اور اس نے اپنی بیوی کی غیرت
کو آزمایا۔ اس عورت نے کسی بے جا غیرت کا انہما نہیں
کیا۔ اس پر حضرت^۱ نے فرمایا: ”تو اپنی بیوی کی جس قدر
تعریف کرے وہ اس کی مستحق ہے۔“^۲

امام حبیر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے عورت اور مردوں کو پرچماد کو
واجب کیا ہے۔ مرد کا پرچماد یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور
اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور عورت کا پرچماد
یہ ہے کہ شوہر کی آزادی اور غیرت مندی کے ساتھ موقوف
کرے۔“^۳ (اگر شوہر ناموس کی حفاظت کی خاطر بے جا
اور ناجائز آمد و رفت سے روکے تو اس کی مخالفت نہ کرے)

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”غیرت ایمان کی نشانی ہے اور گندی باقی جفا کی
علامت ہیں۔“^۴

۱۔ وسائل ابواب المقدمات النکاح ب، خ ۲۷

۲۔ وسائل ابواب المقدمات النکاح ب، خ ۲۸

۳۔ نکاح المستدرک باب ۵ خبر ۱-۳

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
”اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی توبہ اور فدیۃ
کو قبول نہیں فرمائے گا جو کسی اجنبی کو اپنی بیوی کے ساتھ
رلبط و ضبط کا موقع فراہم کرے۔“ ۱۷

”بابا اور ماں کی طرف سے عاق کیا ہوا شخص اور دیوث
جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دیوث وہ شخص ہے جو
اپنی بیوی کے لیے کسی فاسق کو لے جائے۔“ ۱۸

”اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مددوں کے لیے چہار
اور عورتوں کے لیے غیرت کو ثابت فرمایا ہے۔ (یعنی عورتیں
فطری طور پر غیرہوتی ہیں اور اپنے کسی رقبہ کو برداشت
نہیں کر سکتیں) کوئی شخص اللہ کی رضاکی خاطر عورت کی
غیرت کا لحاظ کرے گا اور صبر سے کام میں گا تو اللہ تعالیٰ
اسے شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔“ ۱۹

حضرت علیؑ نے فرمایا :
”مرد کی غیرت اس کا ایمان ہے اور عورت کی غیرت
و شکنی اور عداوت ہے۔“ ۲۰

”مرد کی غیرت اس کی جمیت اور مردانگی کے
مطابق ہوتی ہے۔“ ۲۱

فصل — ۱۸ —

عورت کی عفت کی حفاظت

حضرت امام سجاد علیہ السلام کے داماد یاہنولی جب کبھی آپ کی خدمت
میں حاضر ہوتے تو آپ اپنی چادران کے لیے بچھاتے اور جب وہ سبیحہ جاتے تو
آپ فرماتے :

”افزین ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے خاندان
کی لفالت کی اور عفت کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔“ ۲۲

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
”عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرو۔
اس طبقہ کو بخواری رہنمائی اور بخوارے تحفظ کی ضرورت
ہے اور عورتیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ جن کو تم نے اپنے

۱۷ نکاح المستدرک باب ۷۶ خ ۳

۱۸ دسائل ابواب مقدمات النکاح ب ۲۲ خ ۳

۱۹ نکاح المستدرک باب ۷۶ خ ۳

۲۰ نکاح المستدرک باب ۷۶ خ ۳

۲۱ نکاح المستدرک باب ۷۶ خ ۳

۲۲ نکاح المستدرک باب ۷۶ خ ۳

لیے حلال کیا ہے، اگر تم ان میں سمجھ بوجھ اور قوت تحمل کی کمی محکوم کرو تو خاموشی اور برداشی سے کام لے کر درگز رکرو اور سلامتی کے ماحول میں ان کی عفت کی حفاظت کرو۔“ تے

حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے :

”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے سوال کیا ”عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟“ کسی شخص نے بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس واقعہ کا ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے کیا۔ فاطمہ نے کہا: ”عورت کے لیے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں کہ غیر محروم کے ساتھ ناجائز ربط صنبیت قائم نہ کرے۔“ میں نے یہ جواب اُنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: ”اس نے درست کہا۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔“ تے

دوسری حدیث میں آیا ہے :

”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا: ”عورت کس وقت اپنے رب سے قربی ہوتی ہے؟“ یہ سوال حضرت زہراؓ کے کافیون تک

لے نکاح المستدرک ب ۲۱ خ ۳
۵۷ نے نکاح المستدرک باب ۳۹ خ ۵
۵۸ نکاح المستدرک باب ۲۶ خ ۲

پہنچا تو انہوں نے جواب دیا: ”اس وقت جب وہ سختی کے ساتھ اپنے حجاب (پردہ) اور عفت کی حفاظت کر رہی ہو۔“ تے

”عورت ایک گڑی کے اندھے ہے جس شخص کو بھی وہ حاصل ہوا سے چاہئے کہ اس کو پہنا اور ٹھا کر رکھے۔“ تے

”جب عورت کی حفاظت و نگہداشت کی جاتی ہے تو اس کی طراوت اور اس کا جمال ترویز رہتے ہیں۔“ تے

ابن حجر ان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آپ کے ”قائم“ کا کتب تھہر ہو گما؟“ فرمایا:

”جس وقت عورت میں مردؤں کی طرح اور مرد عورتوں کی طرح ہو جائیں گے۔ عورتیں زین پر سوار ہوں گی، جھوٹوں کی شہادت سنی جائے گی اور صاحب لوگوں کی گواہی مسترد ہو گی لوگوں کے خون کا احترام اٹھ جائے گا، زنا، سودا اور رشوت عام ہو جائے گی۔“ تے

لے نکاح المستدرک ب ۲۱ خ ۲

۵۷ نے نکاح المستدرک باب ۳۹ خ ۵

۵۸ نکاح المستدرک باب ۲۶ خ ۲

ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
علی علیہ السلام سے فرمایا:
”پہلی نگاہ کے سوا کیھنا جائز نہیں، دوبارہ نگاہ
نہ طال۔“

(پہلی نگاہ جو اچانک پڑتی ہے اسے روکا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ
وہ بے اختیار پڑتی ہے۔ لیکن بعد میں جو نگاہ پڑتی ہے تو ادمی کو معلوم ہو جاتا ہے
کہ سامنے کوئی نامحترم ہے اس صورت میں دوسری نگاہ ڈالنے سے جو لازمی طور
پر عمد़اً ہو گی احتساب کیا جانا چاہیے۔ معروف فقرہ کہ پہلی نگاہ جائز ہے شاید اسی
ہمار پر عالم ہوا ہے اور اس سے مراو اتفاقی نگاہ ہے۔ اس لیے عمد़اً ڈالی جانے والی
نگاہ خواہ وہ پہلی ہو یا دوسری یکساں ہے۔)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:
”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چدا شخص
پر لعنت سمجھی۔ ایک وہ شخص جس نے اپنی بیوی یا کنیز کے
علاوہ کسی دوسری عورت کے فرج پر نظر ڈالی ہو۔ اور وہ
شخص جس نے اپنے بھائی کے ناموس میں خیانت کی اور
وہ نقیبہ جس نے دین کی تعلیم کے لیے محتاجوں سے رشوت
مانگی۔“ اے

آن بخوبی نے یہ سمجھی ارشاد فرمایا:

فصل ۱۹

نامحرم کو دیکھنا

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”جو شخص بھی ہمارے کے گھر میں جھانکنے گا اور کسی مرد
کے ستر کو یا کسی عورت کے بالوں کو یا اس کے جسم کو دیکھنے گا
تو خدا کو یہ حق حاصل ہے کہاں سے ان منافقوں کے ساتھ
چشم میں داخل کر دے جو عورتوں کی عجیب جوئی میں لگے ہستے
ہیں اور اس وقت تک دنیا سے زانٹھائے جب تک
کہ اسے رسواز کرے اور آخرت میں اس کے میوب کی
پر وہ پوشی نہ کرے۔“ اے (ایسا اس صورت میں ہو گا
جبکہ تو بُز کی جائے اور گر بُشتہ گا ہوں کہ تلافی نہ کی جائے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”جو شخص بھی اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو آگ
سے بھردے گا مگر یہ کہ (موت سے پہلے) وہ توبہ کر لے۔“

”ایک انصاری نوجوان مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا اچانک ایک خاتون سے اس کی مذہبیت ہو گئی خاتون نے اپنی چادرالٹ رکھی تھی (اس کا چہرہ سراوگردن صاف دکھائی دے رہی تھی) نوجوان کی نظر اس کے چہرے پر ٹپٹی، عورت گزر گئی لیکن وہ نوجوان اسے برابر دیکھتا رہا اور پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ اچانک اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ جب وہ عورت اس کی نظر وہ دوڑ ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے اور اس کا سینہ خون سے سرخ ہو گئے ہیں۔ اس نے خود سے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور سینگیرا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا کہہ سنا تا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ یہ آبیت اس مناسبت سے نازل ہوئی :

”مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی ننگا ہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے حق میں زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ یقیناً جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔“ (النور ۲۱۲۰) ۱۷

”عورتوں کی زینتوں پر ننگاہ ڈالنا شیطان کا تیر ہے۔ جو شخص بھی اس طرح کی ننگا ہوں سے خود کو بجا تا ہے

اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی لذت سے آشنا کرتا ہے جو اس کی خوشی کا ذریعہ بنتی ہے ۲۱۔

”میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں کی خوبی سے زیادہ نقصان رسان فتنہ اور کوئی نہ ہو گا۔“ ۲۲۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :

”جو شخص بھی اپنی نظروں کو آزاد دے لگام کرتا ہے وہ اپنے دل کو تکلیف میں متلاکرتا ہے اور جو شخص مدلل آزاد از طور پر ننگا ہیں ڈالتا ہے اسے ہمیشہ کی حضرت دامن گیر ہو جاتی ہے۔“ ۲۳۔

فضل بن عباس، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے اور آپ کے ہمراہ عرفات کی جانب جا رہے تھے۔ فضل ایک خوبصورت جوان تھے راستے میں ایک بد و ملا جوانی بہن کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس خاتون کا حسن بے مثل تھا۔ بد و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کرنے لگا۔ اور فضل خیرہ خیروں ننگا ہوں سے اس خاتون کو دیکھتے رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضل کی یہ حالت دیکھی تو اس کا ہاتھ سحاق کراس کے چہرے کے سامنے لاتے رہے۔ اس کے باوجود فضل ادھر ادھر سے اس خاتون پر ننگا ہیں ڈالتے رہے۔ جبکہ خفتر ۲۴۔

۲۱۔ نکاح المستدرک باب ۸ خ ۸

۲۲۔ نکاح المستدرک باب ۷ خ ۱۵

۲۳۔ نکاح المستدرک باب ۸ خ ۲

اس بدوسے بات چیت ختم کر چکے تو نفضل کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھاں کے شانوں پر رکھ کر فرمایا:

”کیا انھیں نہیں معلوم یہ آیام وہی لگنے چھنے مقررہ آیام ہیں (جن کا اللہ تعالیٰ نے فتنہ آن میں بڑے احترام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے) جو شخص بھی اپنی آنکھ، زبان اور ہاتھوں کی ان دنوں حفاظت کرتا ہے خدا سال آئندہ کے حج کا ثواب بھی اس کے حساب میں لکھ دیتا ہے۔“ لئے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”کسی بھی شخص نے ایسا مال غنیمت نہیں پایا ہے جو اُسے اپنی نکاحوں کی حفاظت کے بدلتے ہے۔ جب بھی وہ حرام چیز پر نکاح ڈالنے سے احتراز کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کرنے میں سبقت حاصل کر گا۔“

امیر المؤمنین علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا:

”حرام چیزوں کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں بچانے کے لیے ہم کس ذریعے سے قوت حاصل کریں؟“ آپ نے فرمایا: ”اس نکتے کو پسے ذہن میں تازہ رکھ کر تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ تیرے تمام بھیدوں سے واقف ہے، آنکھ دل کی جاسوس ہے اور عقل کی نکاح بان-

اس یے تجھے ہر اس چیز کے دیکھنے سے آنکھیں بند کر لینی چاہیں جو تیرے دین کے لیے نامناسب اور اس کے خلاف ہو۔“ لئے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”نکاح شیطان کے تیروں کا ایک ایسا تیر ہے جو زہر میں بچھا ہوا ہے، اس یے کربا اوقات ایک نکاح ہزاروں حرثیں اپنے پیچھے لاتی ہے۔ جو شخص بھی اپنی نکاحوں سے صرف نظر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا ایمان عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے مرے اور لذت کو محوس کرتا ہے۔“ لئے

”ایک عام آدمی جس کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو، زنا سے بے بہر و نہیں ہے۔ آنکھوں کا زنا نکاح ڈالنا ہے، بلوں کا زنا بوس لینا ہے۔ ہاتھوں کا زنا چونا ہے یہاں تک کہ فرج اس عمل کی تقدیر کر دے یا لکنیب۔ (یعنی خواہ زنا کا عمل انجام پائے یا نہ پائے)“ لئے

”جب آدمی بار بار نکاح ڈالتا ہے تو دل میں شہوت کا یقین پڑ جاتا ہے اور نکاح کا یہی فتنہ (انسان کو گمراہ کرنے کے لیے) کافی ہے۔“ لئے

”جب کسی کی نکاح ناجنم پر پڑتی ہے اور وہ نکاح پھر

آسمان کی جانب دیکھنے لگتا ہے یا آنکھیں بند کرتیا ہے
اس کی آنکھیں کھونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل
کے بدلتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ وہ جنت
کی حور العین کے ساتھ نکاح کرنے کا مستحق ہے۔ ”لے

حضرت امام رضا علیہ السلام نے محمد بن سنان کے سوالات کے جواب
میں تحریر فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بالوں پر نکاح ڈالنا خواہ
وہ عورت شادی شدہ ہو یا نکواری، حرام قرار دیا ہے۔

کیونکہ نکاح شہوت انگیز ہوتی ہے اور شہوت کا ایجاد آدمی
کو فساد اور ناجائز کاموں کی طرف رے جاتا ہے۔ عورت کے
بالوں پر یہ نہیں اس کے جسم کے ہر حصے پر جوان خصوصیات
کا حامل ہونکاہ ڈالنا حرام ہے، صرف ایک موقع کو اللہ
تعالیٰ نے اس حکم سے مستثنی کیا ہے۔ ارشاد خداوندی
ہے: عمر سیدہ عورتیں جوازدواجی زندگی کی خواہش
نہیں رکھتیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنا
لباس (جیسے چادر) کو تار دیں۔ بغیر اس کے کر اپنی آرائش
اور نمائش کریں (یعنی آرائش کے ساتھ نامحروم کے سامنے
آئیں۔ بلاشبہ قرآن اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ سن سیدہ
عورتیں نکاح کر کے کوچہ و بازار میں نکلیں اور اپنی خود آرائی

”نکاح المستدرک باب ۱۰۷ بخ ۹

سے مقصوم کنوارے نوجوانوں کی شہوت کو سمجھ رکایتیں۔ ان کے
خیالات اور خیالات کے ساتھ ان کے دامن کو سمجھ آکر دکریا
اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح طور پر ایسی تمام باتوں سے منع
فرمایا ہے جو طاقتور جنسی جذبے کو سمجھ رکاتی ہیں تاکہ زندگی
کی بہار کا زمانہ عیاشی اور شہوت رانی میں ضائع نہ ہو جائے
اس کے بر عکس جوانوں کی جسمانی اور ذہنی قویں خدا پرستی،
اجتنامی خدمات اور بلند مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال
میں آئیں۔ ”لے

عیاشی ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا:
”حرام نکاح سے بچو کہ یہ شہوت کا بیج اور فسق کا
پودا ہے۔ ”لے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”ان مردوں کی آنکھیں کرش اور دیدہ ورہیں اور
ان کی تباہی اور فساد کا بھی سبب یہی ہیں۔ جب کبھی تم
میں سے کسی کی نکاح ایک ایسی عورت پر جو پر کرش ہو
پڑے تو اسے اپنی بیوی کی قربت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ
وہ بھی اسی عورت کی طرح ایک عورت ہے۔ ”لے

”دسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۸۰ بخ ۷

”نکاح المستدرک باب ۸۰ بخ ۸

”نکاح المستدرک باب ۸۰ بخ ۱۲

”نگاہیں شیطان کا جال ہیں۔“

”خیانت کرنے والی نگاہیں فتنے کا پیش خیہ ہیں۔“

”اپنی آنکھوں سے محروم رہنا بہتر ہے کہ آنکھیں کسی شہوت انگیز منظر کو دیکھیں۔“

”بہت سی نگاہیں ایسی ہیں جو اپنے پچھے ستری لاتی ہیں۔“

”جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دل کو اسودہ بناتا ہے۔“ ۱۶

”جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔“

”جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اسے بہت کم افسوس کرنا پڑتا ہے اور وہ تباہی سے محفوظ رہتا ہے۔“ ۱۷

حضرت امام حبیر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا کہ عورتوں کو ان کے پچھے سے دیکھنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا:

”کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی شخص تمہاری بیوی کو اس طرح دیکھے۔ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو

۱۶ نکاح المستدرک باب ۸۰ خ ۱۲

۱۷ نکاح المستدرک باب ۸۰ خ ۱۷

دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔“ ۱۸

حضرت امام حبیر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے اس آیت کی تفہیم دریافت کی کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا : ابا جان! اس شخص کو اپنے پاس اجرت پر رکھ لیجئے کیونکہ بہتر نی مزدور امانت دار اور طاقت ور شخص ہوتا ہے۔“

آپ نے فرمایا :

”شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طاقتوں ہونے کو ان کے کنوں سے پانی کھینچ کر نکالنے اور بکریوں کو پانی پلانے سے معلوم کیا۔ اور ان کی امانت داری کو اس بات سے معلوم کیا کہ وہ جب شعیب علیہ السلام کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام قدم پڑھا کر آگے آگے چلنے لگے اور کہا کہ تم میرے پچھے آؤ اور مجھے راستہ بتائی جاؤ۔ ہم لوگ عورتوں کے پچھے نگاہ ڈالنے کو پسند نہیں کرتے۔“ ۱۹

(اگر عورت کے اعضا نمایاں نہ بھی ہوں تب بھی اسے پچھے سے دیکھنا مکروہ ہے ورنہ حرام)

ہم نے یہاں جو روایات نقل کیں وہ سب مردوں کے عورتوں پر نگاہ

۱۸ نکاح المستدرک باب ۸۳ خ ۱
۱۹ نکاح المستدرک باب ۸۳ خ ۳

ڈالنے سے متعلق تحقیقیں اور اب :

عورتوں کا مردوں پر زگاہ وانا

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جو عورت شوہر رکھتی ہو اور پھر بھی نامحروم کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سیراب کرے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بڑا سخت ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو صنائع فرمانے کا اگر اس نے اپنے شوہر کے بستر پر کسی درسرے مرد کو دعوت دی تو اللہ تعالیٰ کو یعنی حاصل ہو گا کہ وہ اسے قبر میں عذاب دے اور پھر اسے ہگ میں جلائے۔“^۱

امم سلمہ فرماتی ہیں :

”میں اور میونز (پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوج) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں اس وقت ابن ام مکتوم آئے۔ اس واقعہ کا نتیجت احکام حاصل کے نزول کے بعد کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے پردہ کرنے کے لیے فرمایا۔ ہم نے کہا۔ یہ شخص تو نابینا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو اور تم انھیں نہیں دیکھ سکتیں؟“^۲

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواصے فرمایا:
 ”یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی بانغڑک کو اپنے گھر میں لائے، اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سیراب کرے یا اس کا اس سے آنکھیں لٹاتے یا دونوں مل کر کھانا کھائیں، الہا یہ کہ وہ لڑکا محروم ہو۔“^۱

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
 ”ایک نابینا شخص نے حضرت زہرا علیہما السلام کے گھر میں آنے کی درخواست کی۔ آپ نے اجازت نہ دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وہ شخص تھیں نہیں دیکھ سکتا۔“ میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں“ حضرت زہرا نے جواب دیا۔ اور پھر اسے میری خوشبو بھی اسکتی ہے“ حضورؐ نے فرمایا: ”یہ شہادت دیتا ہوں کہ تو میرے جسم کا ملکہ ہے۔“^۲

امام جعفر صادق علیہ السلام نے سعدان سے فرمایا:
 ”کیا انھیں معلوم ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے کس طرح بیت لیتے تھے؟“ سعدان نے کہا: ”اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

فرزند بہتر جانتے ہیں۔ "امام صادقؑ نے فرمایا: "رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ایک جگہ جمع ہونے کے لیے فرمایا۔ پھر ایک پنچھر کا بننا ہوا برتن لانے کا حکم دیا پھر اس میں نفشوں (گلاب کی طرح کا عطر) آپؑ نے دولا اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیا اور پھر عورتوں سے بھی فرمایا: "تم بھی اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالو۔" رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس سے پاکیزہ تر تھے کہ وہ کسی ناخجم عورت کے ہاتھ سے مس ہوں۔" لہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
"مرد کا خورت سے ہاتھ ملانا خواہ وہ خورت سن رہی
کیوں نہ ہونا پسندیدہ ہے۔" ۲

محمد بن ابی عمير کی ہنسی کہتی ہیں:

"حضرتؐ سے ہم نے پوچھا کیا عورت اپنے دینی بھائی کی عیادت کے لیے جاسکتی ہے؟" آپؑ نے فرمایا: "ہاں بے شک۔" ہم نے پوچھا: کیا ہم اپنے اس بھائی سے مصالحہ کر سکتے ہیں؟" آپؑ نے فرمایا: "بے شک لیکن ہاتھ ڈھکا ہونا چاہیئے، پسغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ آستینوں کے اندر ہوتے تھے اور عورتوں سبیت

۱۔ نکاح المستدرک باب ۱۱۵ خ ۳
۲۔ نکاح المستدرک باب ۸۸ خ ۲

فصل — ۲۰

چھ سال سے بڑی رٹکی کو پیار کرنا اور اے گود میں لینا حباب اُز نہیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
"کسی اجنبی رٹکی کی عمر چھ سال سے زیادہ ہو تو
اے پیار کرنا درست نہیں۔" ۲

آپؑ نے یہ بھی فرمایا:

"کسی رٹکے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ چھ سالہ رٹکی
کو پیار کرے۔ اگر رٹکا اپنی عمر کے سات سال پرے

۱۔ نکاح المستدرک باب ۸۸ خ ۳
۲۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۱۲۷ خ ۲

کے لیے ان پر اپنے ہاتھ رکھتی تھیں۔"

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ:

"عورتیں بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پانی کے طشت
میں رکھتی تھیں" مکن ہے بیعت کے لیے یہ دونوں ہر یعنی
اختیار کئے گئے ہوں۔ ۳

—————
*—————

فصل — ۲۰

چھ سال سے بڑی رٹکی کو پیار کرنا اور اے گود میں لینا حباب اُز نہیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
"کسی اجنبی رٹکی کی عمر چھ سال سے زیادہ ہو تو
اے پیار کرنا درست نہیں۔" ۲

آپؑ نے یہ بھی فرمایا:

"کسی رٹکے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ چھ سالہ رٹکی
کو پیار کرے۔ اگر رٹکا اپنی عمر کے سات سال پرے

۱۔ نکاح المستدرک باب ۸۸ خ ۳
۲۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۱۲۷ خ ۲

کر چکا ہوتواں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحترم عورت کو پیار کرے۔“ ۲۷

احمد بن فعنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا:
”کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں نامحتمم رطیکی کو گود میں لوں اور اسے پیار کروں؟“ آپ نے فرمایا: اگر وہ چچہ سال کی ہو چکی ہے تو اسے گود میں نہ لے۔“ ۲۸

حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام مکر کے گورنر محمد بن ابراہیم کی مجلس میں تشریف فرمائے۔ بگورنر کی ایک چھوٹی بچی تھی۔ وہ اچھا بابس پہن کر مجلس میں آ جایا کرتی، لوگ محبت و شفقت کے ساتھ اسے پیٹاتے یا اپنی گود میں بٹھاتے۔ پچھی اس طرح مجلس میں ادھر سے ادھر گھومنی رہتی۔ ایک روز جب یہی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس ہنسنی اور آپ کی گود میں بیٹھنا چاہا۔ حضرت نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا اور فرمایا: جب بچی اپنی عمر کے چھے سال پورے کر لے کسی نامحترم کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے پیار کرے یا اسے اپنی گود میں بٹھائے۔“ ۲۹

فصل ۲۱

میاں بیوی کے حقوق

اسلام نے میاں بیوی کے کچھ حقوق واجب اور کچھ مستحب مقرر کیے ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ مہر اسلام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اسلام کے دیے ہوئے حیات بخش حقوق پامال نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ان ہی حقوق کی بنیاد پر خاندانی نظام کی تثیل ہوتی ہے، یہی حقوق ہیں جو خاندانی زندگی کو خیر و سعادت، الذلت و ارام سے بھر دیتے ہیں اور اسے دوام و استحکام پختہ ہیں۔

اَللّٰهُ تَعَالٰى فَرَمَّاَ بَهْ:

”عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تم انہیں پسند نہیں کرتے ہو تو بہت کی چیزیں ایسی ہیں جو نقصیں پسند نہیں ہوتیں لیکن خدا نے ان میں خیر کشیر کر کھو دیا ہے۔“ ۳۰

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا:

”جو حقوق مرد عورتوں پر رکھتے ہیں، ویسے ہی حقوق عورتیں مردوں پر رکھتی ہیں۔“ ۳۱

۱۔ سورہ نسا ۴ آیت ۱۹

۲۔ سورہ بقرہ ۲ آیت ۲۲۸

۱۔ وسائل ابواب مقدمات انسکاٹ باب ۱۲۶ خ ۱-۴

۲۔ وسائل ابواب مقدمات انسکاٹ باب ۱۲۶ خ ۶

ایک اور آیت میں ارشاد ہوا :

”آم نے عورتوں کے بارے میں جو کچھ ان پر فرض کیا
بے وہ ہمیں معلوم ہے۔“ لئے

پیغمبرِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”جبریل نے عورتوں کے بارے میں اس قدر سفارش
کی کہ میں نے خیال کیا کہ سوائے ارتکاب زنا کے کسی اور
صورت میں اسے طلاق دینا جائز نہ ہوگا۔“ لئے

نیز آپ نے فرمایا :

”جو شخص اپنے بیوی بچوں کی رکھی بھاں نہ کرے وہ
ملعون ہے، وہ ملعون ہے۔“ لئے

”تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے
بہتر ہے اور میں اپنے خاندان کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔“ لئے

”اللہ تعالیٰ اس نبیے پر رحمت فرمائے جو اپنے اور
اپنی بیوی کے درمیان تقلقات کی اصلاح کرے اور بیوی کے
ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد
کے اختیار میں دیا ہے اور شوہر کو عورت کا سرپرست قرار دیا“^{۲۵}
(اس اختیار و سرپرستی کا جائزہ مرد کے حقوق عورتوں پر والی

فصل میں پیش کیا جائے گا)

”ایک آدمی کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے بیوی
بچوں کو چھوڑ دے۔“ لئے

پیغمبرِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
”تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیویوں
کے حق میں بہتر ہے۔“ لئے

آپ نے خواصے فرمایا :

”خوا! عورت کا فرض شوہر کے بارے میں یہ ہے کہ
اس کی مہر و محبت کو دل میں پالے، اس کے وعدہ و پیمان
کا استرام کرے، اسی کو اس کی اولاد میں شرکیہ نہ کرے، اس
کی تحقییر نہ کرے، اس کی بد سختی کا سبب نہ بنے، اس
کے مال میں خیانت نہ کرے، اس کی موجودگی میں اور اس
کے غیاب میں اس کی خیانت نہ کرے۔ اس کے
لیے ہی سکھا کرے، نماز اور عملِ جنابت اور حسین
نفاس کے احکام کا خیال رکھے۔

جب وہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے گی تو تیامت میں
دو شیرہ بن کر اور ایک نورانی صورت میں انٹھائی جائے گی

۱۷۔ ابواب النفقات ب ۲۱ خ ۴

۱۸۔ نکاح المستدرک باب ۲۹ خ ۴۶

لئے سورہ احزاب ۳۳ آیت ۵۰

۲۰۹۰۶۰۴ ۲۰۹۰۶۰۴ سے وسائل ابواب مدنیات النکاح باب ۸۸ خ

اگر اس کا شوہر مونہ ہوگا تو اس کے ساتھ ایک نئی زندگی
کا آغاز کرے گی، درزِ راہِ حق کے کسی شہید کے ساتھ اس
کا بیان کر دیا جائے گا۔
خولا! شوہر کی غیر موجودگی میں خود کو معطر نہ کر۔“ لئے



باب سوم

فصل — ۱

شوہر کے فرائض، مرد کے ذمہ عورت کے حقوق

مرد کی واجب اور مستحب ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ ان میں چند ہیں۔

زندگی کے تمام لوازم اور ضروریات کی فراہمی جن میں غذا، بیاس،
فرش، بستہ، مکان، طازم، گھرداری کا ضروری سامان، جو خوراک، پکوان اور
گھر کی صفائی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

غذا اور کھانے پینے کا سامان:

غذا اور کھانے پینے کا سامان کسی بھی مقام کی عادات و معمولات کے
مطابق ہوتا چاہیے۔ اس کے لئے میں یہ خیال بھی رکھا جائے کہ کون سی غذائیں عورت

متن ذکرہ بالاحضرت کا واجب ہونا، اس آیتِ قرآن کی رو سے ہے جس میں فرمایا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اور بھلے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو اور یہ تمام اخراجات اچھے اور بھلے طریقے کے صحن میں آتے ہیں۔

اہل بہت کی دوسری روایات

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:
”عورت کی خواہ اک اور بیاس معروف طریقے سے
تم پر واجب ہے۔“

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا:
”اہل و عیال کی خواہش پوری کرنے کے لیے بازار جانا
اور ان کے لیے گوشت خرید کر لانا مجھے ایک غلام کو آزاد
کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔“ اے

اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت

فرمایا:

”شوہر پر عورت کا کون ساخت ہے جسے وہ ادا کرے
تو نیکو کارقرار پاتا ہے۔“ آپ نے ارشاد فرمایا:
”اسے پیٹ بھر لھائے، اور تن بھر کر پڑا پہنائے
اور اگر اس سے کوئی سبھول چوک ہو جائے تو

کے مراج و طبیعت کے مطابق ہیں اور جن کے ترک کرنے پر اسے تکلیف ہو سکتی ہے جیسے چائے اور سکار و غیرہ تاہم یہ جائز حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سردیوں اور گرمیوں کے میوے جو عام طور پر کھائے جاتے ہوں اور عورت کے مناسب حال ہوں۔

لباس اور بستہ اور فرش کے بارے میں بھی متفاہی طریقوں اور خود عورت کی ضروریات کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ مکان بھی عورت کی حالت اور علاقت کی نوعیت کے مطابق ہونا چاہیے خواہ وہ علاقوں شہر سے تعلق رکھتا ہو یا دیہات سے۔ مکان علاقت اور بیوی کی شخصی خصوصیات کے مطابق ہونا چاہیے۔

خادم

اگر عورت کے لیے ملازم کا رکھنا ضروری ہو تو اس کے حال کے مطابق کوئی ملازم فراہم کیا جانا چاہیے۔ البتہ اگر شوہر آمادہ اور عورت کے لیے کوئی حرج نہ ہو تو مرد خود گھر کے کام کا ج کو واپسے ذہنے نے سکتا ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص کی خدمات حاصل کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ زندگی کے تمام لوازمات اور خانہداری کا سامان بھی ضروری مقدار میں

اور بیوی کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔

حمام کی اجرت، صفائی سترھائی کا سامان، ڈاکٹر کی فیس، دواؤں کی قیمت، معمولی بیماریوں کی صورت میں شوہر کے ذمے ہے۔ لیکن ایسی بڑی بیماریاں جن کے علاج پر بہت زیادہ روپیہ حشر پڑتا ہو اور جن کا علاج بعض صورتوں میں برسوں کرنا پڑتا ہو یا جن کے لیے عمل جرایی کی ضرورت پڑتی ہو، شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔

معاف کر دے۔ ” اے

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تغیر کرتے ہوئے فرمایا:

” جن کسی شخص پر روزی کا دارہ تنگ ہو گیا ہے۔

جتنا کچھ بھی اسے اشد نے دیا ہے اسے (اپنی) یوں پر اصرت
کرے۔ ”

آپ نے فرمایا:

” اپنی یوں کو اس قدر کپڑا اور خوراک فراہم کرے
کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے۔ ” ۳۷

ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا:

” یوں بچوں کی سرپرستی اور ان کی حضوریات کا پورا
کرنا مرد کی سعادت ہے۔ ” ۳۸

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواصے فرمایا:

” عورت کا حق شوہر پر یہے کہ اسے پیٹ بھر کھلانے
اس کے لیے لباس فراہم کرے، اسے نماز، روزہ، زکوٰۃ
کی ادائیگی را اگر اس کے پاس مال ہے تو اسے سکھائے۔
اور عورت ان چیزوں کے خلاف کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ ” ۳۹

۳۷۔ وسائل ابواب السفقات ب ۱ خ ۶ - ۵

۳۸۔ وسائل ابواب السفقات ب ۲۱ خ ۷

۳۹۔ نکاح المستدرک ب ۴۰ ص ۲

فصل — ۲

حَمْخَوَابِي

اس موضوع سے متعلق اسلامی احکام، رسائل عملیہ میں لکھے گئے ہیں۔

یہاں صرف چند روایتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے:

حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا:

” ایک شخص کی جوان یوں ہے کہی مصیبت کے پڑنے
کی وجہ سے چند ماہ بلکہ ایک سال سے اس نے یہوی کا قرب
حاصل نہیں کیا ہے۔ لیکن اس نے ایسا یوں کوادیت پہنچانے
کے لیے نہیں کیا۔ اس کا سبب صرف اسے در پیش مصیبت
رہی ہے۔ آیا وہ یہ رویہ اختیار کر کے گناہ کا مرتکب ہوا ہے؟

۳۶۔ نکاح المستدرک ب ۶۲ خ ۳

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” مرد خاذان کا سر برہا ہے اور ہر سر برہا اپنے زیرستوں
کا ذمہ دار ہے۔ عورت شوہر کے مال کی سرپیٹ اور ذمہ دار
ہے۔ ” ۴۰

—————

اپنے نے فرمایا: مل، اگر اس نے چار ماہ بیوی کے بنیگرگار
دیتے تو وہ گناہ کا رہ گا۔ ”اے

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

”عثمان بن مظعون، پیغمبرِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوچنے کی: یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں ایک خیال آیا لیکن میں نے اس
اس پر عمل کرنے کو اس وقت تک موقوف کر دیا جب تک
اپنے سے اس بارے میں مشورہ نہ کر لوں۔ ”اپنے دریافت
فرمایا: ”مختارے دل میں کیا خیال آیا؟ ”انھوں نے جواب
دیا: میرے دل میں خیال آیا ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤں
اور رہبائیت اختیار کرلوں، ”اپنے نے فرمایا: اس خیال کو
دل سے نکال دو کیونکہ میری امت کے لیے رہبائیت مسجد ہے۔
پھر میں نے سوچا کہ کم از کم گوشت کو اپنے اور پر حرام کرلوں: ”
اپنے نے فرمایا: ”اس خیال کو بھی چھوڑ دو، میں گوشت کو
پسند کرتا ہوں اور کھانا ہوں ”انھوں نے کہا: میں نے
یہ بھی سوچا خود کو خصی (خواجی کرلوں) بنالوں ”اپنے نے
فرمایا: ”عثمان! جو شخص خود کو بیداری دوسرے کو ایسا بنائے
وہ ہم میں سے نہیں ہے میری انت کے لیے خواجی روزہ
ہے۔ ”انھوں نے کہا میرا دوسرا خیال یہ ہے کہ اپنی بیوی

”خولہ“ کو خود چھسرم کرلوں ”اپنے نے فرمایا: ”ایسا بھی کرنا،“ اے

حضرت ابوذر نے پیغمبرِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا:
”کیا ہر د کام عورت سے ملنا جیکہ اس کا مقصد خوشی
اور لطف حاصل کرنا ہو تو کیا اس پر بھی ثواب ملے کا؟ ”اپنے
نے فرمایا: ”بے شک، اگر نامشوّفع طریقے سے بھی اپنی
بیوی سے اپنی عرض پوری کر لو تو حرام نہیں ہے: ”انھوں نے
پوچھا: ”ایسا کیوں ہے؟ ”اپنے نے فرمایا: ”کیونکہ اس
کا حلال بھی باعثِ ثواب ہے۔“^۱

ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبرِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ
ہم خوابی اور راخیں مال دینے میں انصاف سے کام نہے
تو اسے اس حال میں دوزخ میں داخل کیا جائے گا کہ اس
کے لگے میں طوق ہو گا اور جس کے بوجھ سے وہ سیدھا کھڑا
نہ ہو سکے گا۔“^۲

ایک دوسری روایت میں آیا ہے:
”حضرت علی علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں جب

۱۔ نکاح المستدرک باب ۳۷ خ ۱

۲۔ نکاح المستدرک ابواب المقدمات باب ۱ خ ۲۰

۳۔ وسائل ابواب الفتن باب ۲ خ ۲

ان میں سے کسی کی باری ہوتی تو آپ دوسری یہوی کے گھر
میں وضو بھی نفرماتے۔“ ۱۷۲

فصل ۳

خوراک، لباس اور دوسرے لوازم

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”اگر کوئی بازار جائے اور اپنے اہل دعیال کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے
خریدے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو صدقہ خود ضرور مندو
کے گھر پہنچاۓ۔ اے چاہیئے پہلے راکبیوں کو دے کیونکہ
جو شخص بھی اپنی لڑکی کو خوش کرے گا وہ اس شخص کی طرح
ہو گا جس نے نسل اسماعیل کے کسی غلام کو آزاد کیا ہوا اور
جو شخص اپنے بیٹے کو خوش کرے گویا وہ خدا کے خوف سے
روئے اور جو شخص خدا کے خوف سے روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اسے نعمتوں سے بھری ہوئی بہشت میں داخل کرتا ہے۔“ ۲۷

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا:
”خاذان، مرد کی زیر سر پستی ہوتا ہے جس کی کو
اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے اسے ان نعمتوں کو اپنے
خاذان پر تقسیم کرنا چاہیے۔ ورنہ ممکن ہے یعنیں اس کے ہاتھ
سے چلی جائیں۔“ ۱۷۳

اکثر روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ مرد کے لیے لازم ہے کوہ گھر کے
اخراجات کے لیے کامنے اور کام کرنے کی تکلیف بروادشت کرے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
”جو شخص اپنے اہل دعیال کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے
وہ اس سپاہی کی طرح ہے جو رام خدا میں جان اپنی تھیلی پر
رکھ کر جدوجہد کرے۔“ ۱۷۴

ایک شخص نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کی:
”ہم دنیا کے سچھے دوڑتے ہیں اور مال حاصل کرنے
میں بڑی دول چسپی رکھتے ہیں۔“ آپ نے دریافت کیا: تم
یہ سب کس لیے کرتے ہو؟“ اس شخص نے جواب دیا: تاکہ
مال کو اپنے خرچ میں لایں اور اپنے خاذان کی ضروریات
پوری کریں، صلہ رحمی کریں، صدقہ دیں اور خاذ خدا کی

زیارت کے لیے سفر کریں، آپ نے فرمایا: یہ دنیا طلبی نہیں
یہ آخرت طلبی ہے۔ ۳۶

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا:
”جو شخص اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے
لئے اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے۔ اس کا اجر راہ حق کے مجاہد
سے بھی زیادہ ہے۔“ ۳۷

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ مرد میر
ہو کر کھائے اور عورت بھوکی رہے۔ ۳۸

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
”آدمی کو اپنے خاندان کے بارے میں خود پر قین پیری
لانم کر لینی چاہئیں خواہ یہ اس کی خواہش کے خلاف ہی کیوں
نہ ہو۔ اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک، ان کے کھانے پینے
میں کشاوی یعنی کسی اسراف کے، اور ناسوس کے بارے
میں غیرت۔“ ۳۹

نیز آپ نے فرمایا:

-
- | | | | | | |
|----|---------------------|-----|----|---|-----|
| ۳۶ | وسائل ابواب النفقات | ب | ۷ | خ | ۳ |
| ۳۷ | وسائل ابواب النفقات | باب | ۲۳ | خ | ۲ |
| ۳۸ | نکاح المستدرک | باب | ۶۴ | خ | ۱ |
| ۳۹ | بخار الانوار | جلد | ۲۸ | ص | ۲۳۹ |

”جو شخص اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔“ ۳۵

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”ایک مومن کو اپنے خاندان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا
چاہئے جیسا سلوک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتا ہے جب
اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ کشادہ کرے اسے اپنے خاندان کے
لیے کشاوی گی پیدا کرنی چاہئے اور جب اس کا ہاتھ تنگ
کرے تو اسے بھی اپنا ہاتھ روک کر خرچ کرنا چاہئے۔“ ۳۶

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا:
”آدمی جس قدر اپنے خاندان کے ہاتھ کشادہ کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے اسی قدر خوش ہوتا ہے۔“ ۳۷

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”خاندان کی خوبیت نہیں کرتا ہے مگر صدقیت (استبان)
یا شہید یا پھر وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت
کی بھلائی چاہتا ہو۔“ ۳۸

۳۵ بخار الانوار جلد ۱۰۳ ص ۲۲۵ ب

۳۶ بخار الانوار جلد ۱۰۷ ص ۱۴۵ ف

۳۷ بخار الانوار جلد ۱۰۷ ص ۶۹ / وص ۹۷ مکا

۳۸ بخار الانوار جلد ۱۰۷ ص ۱۳۷ فج

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”جو مسلمان خدا کی خاطر اپنے خاندان کے لیے کچھ خریدتا
ہے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔“^{۱۷}

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:
”جمد کے روز اپنے خاندان کے لیے تازہ میوے خریدا
کرو تو اک جمعد کی آمد سے انہیں خوشی ہو۔“^{۱۸}

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا:
”اپنے بچوں سے جو بھی وعدہ کرو اسے پورا کرو کیونکہ
وہ تھیں اپنا روزی رسان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے
بارے میں اتنا خصباں کا نہیں ہونا جتنا وہ عورتوں اور
بچوں کے بارے میں غصب ناک ہوتا ہے۔“^{۱۹}

فصل ۲

عمرت کرنا تکلیف ز دینا اور کام تقسیم کرنا

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”تم اپنی بیویوں کو کس طرح مارتے ہو حالانکہ تم مہشیہ

^{۱۷} بخار الانوار جلد ۱۰۷ ص ۲۰ ما

^{۱۸} بخار الانوار جلد ۱۰۷ ص ۳۷ عدد الداعی

ان کے شرکیہ حیات اور وہ محکاری شرکیہ حیات ہیں۔“^{۲۰}

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:

”یہ عورتیں زندگی کو خوشیوں سے بھر دینے والی ہیں
جو شخص بھی شادی کرے اسے اپنی رفیقہ حیات کو ضائع اور
تباه نہیں کرنا چاہیے۔“^{۲۱}

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا:

”عورت اریجان (نائزہ) کا دستہ ہے نکاح
کی پہلوان۔“^{۲۲}

توضیح:

اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو
مد نظر کھیں اور پھر گھر کے داخلی کاموں اور معاشرہ کے خارجی کاموں کو دونوں
کے مزاج اور صلاحیت کے مطابق ان کے درمیان عادلانہ طور پر تقسیم کریں۔ اس
صورت میں لازماً کثیق جیسے سخت کام مرد کے حصے میں آئیں گے اور اولاد کی تربیت
اور بیماروں کی تیار داری جیسے زیر دنازک کام عورت کے پرد کیے جائیں گے۔ نیزہ
کہ اس معاملے میں عمومیت کا الحافظ کیا جائے گا، ناقابل استثنائی کلیت کا نہیں۔ سلام
کی رو سے تقسیم کا رکی وہ تمام حزیبات جن کا تسلق مرد اور عورت اور گھر اور معاشرہ
سے ہے فتحی کتابوں اور رسائل علمیہ میں بیان کی گئی ہیں امناسب ہے کہ نکاح سے

^{۲۰} لے، ۲۱، دسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۸۶ خ ۱

^{۲۱} دسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۸۷ خ ۱

متعلق مسائل کا مطالعہ کیا جائے۔

حضرت امام جaffer صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”اکثر اہل بہشت کا تعلق عورتوں کے کمزور طبقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کمزوری اور ناتوانی کا عالم تھا اس لیے ان پر اللہ نے رحم کیا۔“ لئے

ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا:

”جو شخص اپنی بیوی کو آزار پہنچاتا ہے اس کی نماز اور اس کا نیکی کا کوئی کام درگاہِ خداوندی میں قبول نہیں ہوگا۔ اور پہلا شخص ہوگا جو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔“ لئے

یعنی انسانی تاریخ کے طویل دور میں چونکہ عورتیں مردوں کی پرنسپت زیادہ بے ایسی کا اور ظالموں اور زبانِ دراز لوگوں کے ستم کا نشانہ بنتی ہیں اور حقوق سے محروم کی جاتی ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں پر دنیا اور آخرت میں رحم کرتا ہے اس لیے لازماً آخرت میں جنت کے اندر عورتوں کی تقدیر مردوں سے زیادہ ہوگی۔

عبادت کا قبول نہ ہونا اور اس کا باطل ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ نماز کا باطل فزار یا نا یہ ہے کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب ساقط ہو جائے جیسے وضو، قبلہ پارکوئ اور سجدہ تھیک طرح سے ادا نہ ہوں، اس صورت میں نماز کو دہرانا ہوگا۔ لیکن نماز کا غیر مقبول ہونا یہ ہے کہ اس کی حقیقت و نورانیت میں

۱۔ مسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۸۶ خبر ۲
۲۔ مسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۸۷ خبرا

کمی آجائے۔ اور وہ اپنی حضوریات اور نشانیاں کھو دے۔ ایسی نماز خدا سے قریب کرنے والی، گناہوں سے روکنے والی اور دل کو روشن کرنے والی نہیں ہوتی۔ لیکن اپنی نماز کی قضا بھی نہیں ہوتی۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”اگر کوئی شخص شادی کرے تو اسے اپنی بیوی کا احتراز
بھی کرنا چاہیے۔“ لئے

”محظی اس بات پر حیرت ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی
کو بے جا زد و کوب کرے جیکہ وہ خود ایسی زد و کوب کا زیادہ
سرما و اربے۔ عورت کو کہڑی سے مت مار کیونکہ اس کا
قصاص ہے۔“ لئے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مارنے سے منع کیا ہے
بجز واجب کاموں کے بارے میں جیسے نماز اور روزہ وغیرہ۔ تھے
توصیح:

بعض لکھنے والوں اور زبانِ تنقید کھولنے والوں نے جو اعتراضات
کیے ہیں ان میں سے ایک اعتراض کا تعلق، اسلام میں عورتوں کو مارنے کی اجازت
دینے سے ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں رواہنبو
ہن، عورتوں کو مارو کہا گیا ہے اور کبھی قرآن کی اس آیت کو اس کے سیاق و سبق
سے الگ کر کے اور اس کے مجموعی معنیوں پر توجہ دیے بغیر تنقیدی حملوں کا نشانہ بنایا

متعلق مسائل کام مطابق کیا جائے۔

حضرت امام حبیر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”اکثر اہل بہشت کا تعلق عورتوں کے مکروہ طبقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی مکروہی اور ناتوانی کا عالم تھا اس لیے ان پر اللہ نے حرم کیا۔“ لئے

ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا:

”جو شخص اپنی بیوی کو آزاد پہنچاتا ہے اس کی نماز اور اس کا نیکی کا کوئی کام درگاہِ خداوندی میں قبول نہیں ہوگا۔ اور پہلا شخص ہوگا جو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔“ لئے

یعنی انسانی تاریخ کے طولی دور میں چونکہ عورتوں کی بُنیت زیادہ بے سبی کا اور ظالموں اور زبانِ دراز لوگوں کے ستم کا نشانہ بنتی ہیں اور حر حقوق سے محروم کی جاتی ہیں اور جو نکہ اللہ تعالیٰ مکروہ لوگوں پر دنیا اور آخرت میں رحم کرتا ہے اس لیے لازماً آخرت میں جنت کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔

عبادت کا قبول نہ ہونا اور اس کا باطل ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ نماز کا باطل قرار پانیا ہے کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب ساقط ہو جائے جیسے وضو، قبلہ پیارکوں اور سجدہ تھیک طرح سے ادا نہ ہوں، اس صورت میں نماز کو دہرانا ہوگا۔ لیکن نماز کا غیر مقبول ہونا یہ ہے کہ اس کی حقیقت و نورانیت میں

لئے وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۸۶ خبر ۲

لئے وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۸۷ خبر ۱

کمی آجائے۔ اور وہ اپنی حخصوصیات اور نشانیاں کھودے۔ ایسی نماز خدا سے قریب کرنے والی، گناہوں سے روکنے والی اور دل کو روشن کرنے والی نہیں ہوتی۔ لیکن اپنی نماز کی فضایا بھی نہیں ہوتی۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اگر کوئی شخص شادی کرے تو اسے اپنی بیوی کا احتراز بھی کرنا چاہئے۔“ لئے

”محضے اس بات پر حیرت ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو بے جا زد و کوب کرے جیکہ وہ خود ایسی زد و کوب کا زیادہ سزاوار ہے۔ عورت کو کلڑی سے مت مارو کیونکہ اس کا فقصاص ہے۔“ لئے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مارنے سے منع کیا ہے بجز واجب کاموں کے بارے میں جیسے نماز اور روزہ وغیرہ۔ تھے تو صلح:

بعض لکھنے والوں اور زبانِ تنقید کھوئے والوں نے جو اعتراضات کیے ہیں ان میں سے ایک اعتراض کا تعلق، اسلام میں عورتوں کو مارنے کی اجازت دینے سے ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں رواضنبو هن، عورتوں کو مار دکھا گیا ہے اور کبھی قرآن کی اس آیت کو اس کے سیاق و ساق سے الگ کر کے اور اس کے مجموعی معہوم پر توجہ دیے بغیر تنقیدی حملوں کا نشانہ بنایا

جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت پر نظام و ستم کی اجازت دی ہے اور اسلام نے عورتوں کو یونڈی غلام بنانے کا رکھنے اور اسے مکر زور بے بس کرنے کی سابق رسم کو جائز رکھا ہے۔

مناسب یہ ہو گا کہ پہلے مندرجہ ذیل مطالب پر توجہ دی جائے اور بعد میں آیت کے مجموعی معنیوں پر غور کیا جائے تاکہ مندرجہ بالا اشکال رفع ہو سکے۔

مطلوب : ۱

اب تک حاصل ہونے والے تجربے اور جو کچھ دانشوروں، ماہرین عمرانیات اور ماہرین نفسیات نے لکھا ہے اس کے مطابق عورت و مرد کے درمیان ذہنی صلاحیت اور فکری استعداد کے اختلاف سے فرق و اختلاف پایا جاتا ہے۔

کامل غور و فکر اور تحقیق کے مطابق جو عورت و مرد کی دماغی صلاحیتوں کے بارے میں کی گئی ہے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مرد، فکری و ذہنی طاقت و استعداد کے اعتبار سے، عورت پر ایک طرح کی برتری رکھتا ہے بلکہ مرد کا مغرب جنم میں عورت کے مغرب سے بڑا ہوتا ہے یہ بات بربناۓ اکثریت کی گئی ہے نہ کہ کلیت و عمومیت کی بنیاد پر۔

ثبوتِ مطلب :

اس کا ثبوت وہ اعلاد و شمار ہیں جو بعض متمدن ممالک جیسے امریکہ وغیرہ سے حاصل کیے گئے ہیں۔
ان اعلاد و شمار کے مطابق بعض متمدن ممالک میں عالی رتبہ

مطلوب : ۲

جب عورت اور مرد کی طبیعی صلاحیتوں اور نفسیاتی خصوصیات کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جاتا ہے تو ان دونوں طبقوں کی ذاتی صفات میں بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً شجاعت کی صفت مردوں میں عورتوں کی بُرنسیت بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ عورتوں میں رحم اور زرمی کی صفت مردوں کی بُرنسیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہی حال بعض دوسری صفات کا ہے۔

مطلوب : ۳

یہی حال عورت اور مرد کی بدلتی اور جسمانی صلاحیتوں کا ہے

جوں یا یونڈی ٹھی کے پروفیسر و مفکروں، افوجی اور انتظامی شعبوں کے سربراہوں جیسے اعلیٰ عہدوں پر فائز عورتوں کی تعداد محسن دس فیصد ہے یا پھر بیس فیصد سے کمیں بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور یہاں ہم نے بڑے جدید ترین ممالک کے اعلاد و شمار کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ کمیں یہ نہ کہا جائے کہ جیسوں پر مالک میں تو عورتوں کی صلاحیتوں کو برداشت کیا گیا ہے اور ان کی ذہنی ترقی کے لیے سہو تینیں فراہم نہیں کی گئیں۔ جبکہ ترقی یا نافذ مالک میں اڑکے اور اڑکیاں دونوں گھر کی تربیت اور اسکوں سے لے کر یونڈی ٹھی کی تعلیم تک دو شبد و شش مصروف رہتے ہیں۔ اس کے باوجود متذکرہ بالا فرق سامنے آیا ہے اور یہ اعلاد و شمار ہماری اس بات کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔

جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت پر ظالم و ستم کی اجازت دی ہے اور اسلام نے عورتوں کو بونڈی غلام بنانکر رکھنے اور اسے کمزور و ربلیس کرنے کی سابق رسم کو جائز رکھا ہے۔

مناسب یہ ہو گا کہ پہلے مندرجہ ذیل مطالب پر توجہ دی جائے اور بعد میں آیت کے مجموعی مفہوم پر عورت کیا جائے تاکہ مندرجہ بالا اشکال رفع ہو سکے۔

مطلوب : ۱

اب تک حاصل ہونے والے تجربے اور جو کچھ دانشوروں، ماہرین عمرانیات اور ماہرین لنسیات نے لکھا ہے اس کے مطابق عورت و مرد کے درمیان ذہنی صلاحیت اور فکری استعداد کے اعتبار سے فرق و اختلاف پایا جاتا ہے۔

کامل عنروں فکر اور تحقیق کے مطابق جو عورت و مرد کی دماغی صلاحیتوں کے بارے میں کی گئی ہے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مرد، فکری و ذہنی طاقت و استعداد کے اعتبار سے، عورت پر ایک طرح کی برتری رکھتا ہے بلکہ مرد کا مغرب جنم میں عورت کے مغرب سے بڑا ہوتا ہے یہ بات بر بنائے اکثریت کبھی گئی ہے نہ کہ کلیت و عمومیت کی بنیاد پر۔

ثبوت مطلب :

اس کا ثبوت وہ اعلاد و شمار ہیں جو بعض منمند ممالک جیسے امریکہ وغیرہ سے حاصل کیے گئے ہیں۔

ان اعلاد و شمار کے مطابق بعض منمند ممالک میں عالی رتبہ

جھوں ہیں فیروزی کے پروفیسر و مفہومی اور انتظامی شعبوں کے سربراہوں جیسے اعلیٰ عہدوں پر فائز عورتوں کی تعداد مخصوص دس فیصد ہے یا پھر بیس فیصد سے کہیں بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور یہاں ہم نے بڑے جدید ترین ممالک کے اعلاد و شمار کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ کہیں یہ نہ کہا جائے کہ جھوٹے اپنے ماندہ ممالک میں تو عورتوں کی صلاحیتوں کو برداشت کیا ہے اور ان کی ذہنی ترقی کے لیے سہو تین فراہم نہیں کی گئیں۔ جبکہ ترقی یا نئے ممالک میں اڑکے اور اڑکیاں دونوں گھر کی تربیت اور اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی تعلیم تک دو شہری بدر و شری مصروف رہتے ہیں۔ اس کے باوجود متذکرہ بالا فرق سامنے آیا ہے اور یہ اعلاد و شمار ہماری اس بات کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔

مطلوب : ۲

جب عورت اور مرد کی طبیعی صلاحیتوں اور لنسیاتی خصوصیات کا وقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جاتا ہے تو ان دونوں طبقوں کی ذاتی صفات میں بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً شجاعت کی صفت مردوں میں عورتوں کی بُر نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ عورتوں میں رحم اور نرمی کی صفت مردوں کی بُر نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہی حال بعض دوسری صفات کا ہے۔

مطلوب : ۳

یہی حال عورت اور مرد کی بدلتی اور جسمانی صلاحیتوں کا ہے

یعنی تحریر اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ مرد کی جسمانی طاقت اور بدنی صلاحیت بالعموم عورت کی جسمانی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔

مطلوب : ۳

یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ خاندان کو معاشرہ کی بنیاد کی اور اولین اکائی کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ خاندان کی بہت سی اکائیوں سے مل کر ہی ایک بڑے اجتماع کا ظہور ہوتا ہے جیسے شہر یا ملک۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہر بڑا اجتماع یا معاشرہ ایک تشکیل و تنظیم کا محتاج ہوتا ہے اور ہر تنظیم کے لیے ایک سربراہ اور منتظم کی صورت ہوتی ہے ورنہ بڑی گڑ بڑا اور بدنظمی پیدا ہوگی۔ یہ ایک ایسا اصول اور فاعدہ ہے جس کی پابندی چھوٹی سے چھوٹی تنظیم کے بارے میں بھی ہوئی چاہیے۔

جو کچھ اوپر لکھا ہے اس کے نتیجے اور حاصل کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر دو میاں بیوی اور ایک بڑنے کے اور ایک بڑی پر مشتمل خاندان کو ایک چھوٹی ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے اور اس ریاست کے لیے ایک ایسے سربراہ کا انتخاب عمل میں آئے جو اس ریاست کی نکری رہنمائی کر سکے، روحاںی زربت کافر میں انجام دے سکے، اس کے سیاسی اور اقتصادی مسائل اور دوسرے تمام متعلقہ شعبوں کے مسائل کو سنبھال کر حل کر سکے تو آپ بتائیے اس ریاست کے چار افراد میں سے کسے سب سے زیادہ موزوں سمجھ کر منتخب کیا جائے گا؟۔

یہ بات ظاہر ہے کہ پہنچے تو اس کے لیے موزوں نہیں ہو سکتے اور مرد

اور عورت میں سے عورت بھی اس کے لیے موزوں نہیں ہو سکتی۔ مرد ہی کی ذات ایسی ہے جو ان شرائط کو پورا کر سکتی ہے اور اسی کو اس خاندان کی ریاست کا سربراہ منتخب ہونا چاہیے۔

اگر مرد کو خاندان کی ریاست کا سربراہ منتخب کر دیا گیا تو ریاست کی سربراہی کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رعایا سے زمی کے ساتھ پہلے کے اور ان کی شخصی و اجتماعی فلاح و بہبود کا کام انجام دیتے ہوئے ان کی رہنمائی کرے اور اگر رعایا میں کوئی جہالت و نادانی اور حرص و ہوس کا رو یا اختیار کرے تو ایک جہر بان معلم کی طرح انھیں نصیحت کے ذریعہ را راست پر لانے کی کوشش کرے۔ اس پر بھی وہ زمانیں تو زبانی اور عملی طور پر ان کی سرزنش کرے اور اس کا بھی کوئی اثر نہ ہو تو خاص شرائط کے مطابق جسمانی تعزیزی کے ذریعہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔

اگر ریاست کا یہ مطلب نہیں تو پھر ریاست کے اور کیا سفہ ہوں گے؟ اور اب آئیتِ شریعت کے اس مراد و مفہوم پر غور فرمائیں جس کا نقلن عورت کی تنبیہ اور اسے مارنے سے ہے۔

الرِّحَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

(القرآن)

اللَّهُ تَعَالَى نے مردوں کو عورتوں پر قوام نبایا ہے۔ یعنی مردوں کو عورتوں پر (ذہنی اور جسمانی طور پر) برتری عطا فرمائی ہے۔ عورتوں کی زندگی کی باگ دُور مردوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے مرد ہی عورتوں کا سرپرست اور قوام ہو گا۔

حاصل یہ کہ صالح خواہین وہ عورتیں ہیں جو اللہ اور اس کی شریعت کے آگے سر جھکا دتی ہیں اور حب شوہر موجود نہ ہو اس کے حقوق کی محافظت اور نگہبان بنتی ہیں اور یہ سوچنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود عورت کے حقوق بھی مدد رکیے ہیں جن کے ادا کرنے کا مرد پابند ہے۔

اگر تجھیں عورتوں کے بارے میں یہ خوف ہو کہ وہ ان احکامِ الہی سے روگردانی اختیار کریں گی جن کا تعلق ان کے فرائض اور خانزاداری سے ہے تو تاجیں احکامِ الہی کے آگے برستیم خم کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے پہلے نصیحت اور افہام و تفہیم سے کام لو اور سچھر خواب گاہ میں ان سے الگ ہو کر تاجیں تبیہ کرو اور اس پر سمجھی وہ راہ راست پر نہ آئیں تو تاجیں مار سکتے ہو (تاکہ وہ اپنے فرائضِ انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں)

اس تشریح کے بعد آیتِ شریفی کی مراد اور منہوم یہ سامنے آتا ہے کہ عورت کا ان فرائض اور حقوق کے ادا کرنے سے روگردانی کرنا جو اسلام نے اس پر عائد کیے ہیں، نہیں عن المنکر سے منقلت احکامات کے ذیل میں آتا ہے جس کا خاص طور پر اس معاملہ میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات کسی منقلت کی رو سے بھی عقل و شرع کے خلاف نہیں ہے۔

”جبریل نے عورتوں کے بارے میں اس قدر سفارش کی کہ میں نے خیال کیا کہ وہ طلاق دینے کو حرام قرار دے دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا کرو“ لئے

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا :

”عورتیں بخمارے ہاتھوں میں ایک امامت کے طور پر ہیں ان پر سختی نہ کرو اور بغیر کسی مقصود و جائز وجہ کے انہیں نچھپوڑو۔“ لئے

خولہ نے سچھیر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا :

”عورت کا مرد پر کیا حق ہے کہ؟“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”میرے بھائی جبریل نے عورتوں کے بارے میں اس قدر سفارش کی کہ میں نے یہ خیال کیا کہ مرد کو دعمولی توہین آمیز کلمہ اُٹ تک کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جبریل نے

کہا : محمدؐ! عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ زندگی کی مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، خدا کے حکم، نصی قرآن اور سنت اور شریعتِ محمدؐ کی ہدایت کے تحت وہ بخمارے یہی حلال کی کی ہیں۔ تم ان سے جو نفع حاصل کرتے ہو اور وہ بخمارے بچوں کو واپس شکم میں رکھ کر پرورش کرتی ہیں اور ان کی ولادت کے وقت سخت درد و تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اس سب کے عوض کچھ واجب حقوق ان عورتوں کے تم پر عائد ہوتے ہیں۔ تم ان پر جہر بان رہو، ان کا دل خوش رکھو تو کہ وہ بخمارے ساتھ اتفاق سے رہیں، ان سے کراہت اور ملال کا انہصار نہ کیا کرو، جو کچھ رہبر کی صورت

میں) انھیں دے چکے ہو، اس کے بارے میں لایحہ نکر و اور
کوئی جیزان سے بالجبر وابس نلور۔“ ۱۷

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اچھی طرح جان لو جو شخص اپنی بیوی کو جبر و دباؤ کے
نیچے رکھے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ دونوں اس سے اس
وقت تک ناراضی ہیں جب تک وہ حیراد اکر کے آزاد
ز ہو جائے۔“ ۲۷

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:
”کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری رنیقہ حیات تیرے واسطے
سے بدجنت ترین لوگوں میں شمار ہو۔“ ۳۷

امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے فرزند عزیز حسن علیہ السلام سے فرمایا:

”کوئی بھی کام جو عورت کے جسم و جان سے مناسبت
نہیں رکھتا، اس پر مرتضیٰ اللہ تاکہ اس کی تازگی بیشتر، اس
کی لطافت زیادہ اور اس کا حسن پائیدار تر رہے۔“

”عورت نازلہ کے دستے کی طرح ہے نہ کہ اکھڑے
کے پہلوان کی طرح۔“

۱۷ نکاح المسندruk باب ۶۷ خبر ۲

۱۸ بخار الانوار جلد ۶، صفحہ ۳۳۶ ثو

۱۹ بخار الانوار جلد ۶، صفحہ ۲۲۹ ف

فصل — ۵

عورت کی بدلائلی پر تحمل کرے

مرد کو عورت کی بعض ناپسندیدہ عادتوں کے باوجود اس کے ساتھ
نباہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے پسند نہ آنے والے کاموں سے چشم پوشی
کرے، اس کی لغزشوں سے درگزر کیا کرے۔ یہ طرز عمل میاں بیوی کے تعلقات
کو قائم رکھنے، انھیں دوام بخشنے اور دونوں کے درمیان الفت بڑھانے میں بہت
موثر ثابت ہوتا ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”جو شخص عورت کی ناپسندیدہ عادت کو اللہ تعالیٰ
کی غاطر برداشت کرتا ہے، اسے ہر بار اپنے صبر کا ثواب
زیادہ ملتا ہے اور اس طرح عورت کے گناہ میں اضافہ
ہوتا ہے۔“ ۱۷

ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عورت کے بڑے
اخلاق کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شکر گزاروں

کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔^۱

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا :
 ”شوہر پر عورت کا وہ کون ساختن ہے کہ اگر وہ اسے
 ادا کرے تو گویا اس نے اچھا سلوک کیا ؟“ آپ نے فرمایا :
 ”اس کے کھانے پینے کے خرچ اور بس کا انتظام کرے ، اس کی
 خطاؤں سے درگزد رکرے۔ میرے والد کی ایک بیوی تھی وہ
 مسلم اخنیں اذیت سینجا تی رہتی ، آنہناب اسے معاف
 فرماتے رہتے۔“^۲

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
 ”بیشتر میں ایک درجہ ہے ، اس درجہ تک کوئی
 ہنیں پہنچے گا مگر عادل حکمران یا اپنے عزیزوں کے ساتھ
 اچھا سلوک کرنے والا یا صبر کرنے والا عیال وار شحف۔“^۳

فصل — ۶

بیوی کے بارے میں بیجا غیرت کا انہما نہ کرے

ایک روایت میں آیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام اپنے ایک خط میں تحریر فرمایا :

”ایسا نہ ہو کہ تم غیرت کا بیجا انہما کرو اور بے گناہ عورت کو جا براز طور پر ملامت و سرزنش کا نشانہ بناؤ ،
 کیونکہ یہ چیز خود پاک دل خواتین کو فساد کی راہ پر ڈال
 دتی ہے لیکن ان پر اپنی گرفت مضمبوط رکھو اور اگر ان کے
 اندر کوئی چھوٹی یا بڑی براٹی دیکھ جوں قد رجلہ ہو سکے اسے
 انہماز پھینکنے کی کوشش کرو۔ کہیں وہ ایک سنگین صورت
 اختیار نہ کرے تاکہ گناہ کا خیال ان کے دماغ سے نکل جائے۔“
 (اس روایت کا متن وسائل اور واقعی دونوں کتابوں میں واضح اور سان نقل
 نہیں ہوا ہے اس لیے روایت کا ترجمہ اس کے صحیح مفہوم و مراد کا اندازہ لگا کر
 کیا گیا ہے۔)

”اگر اپنی بیویوں کی طرف سے مختارے دل میں کوئی
 بدگمانی پیدا ہو جائے تو اسے جس قدر ممکن ہو سکے دوسرے

^۱ دسائل ابواب مقدمات انكاج باب ۹۰ خ ۵

^۲ دسائل ابواب مقدمات انكاج باب ۸۸ خ ۱

^۳ بخار الانوار ج ۱۰۲ ص ۷۰ - ل

کرنے کی کوشش کرو۔ غلطی جھوٹی ہو یا بڑی، بار بار سرزنش زکر و یونکہ یہ چیز گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور تنبیہ کی قدر تبیت کو گھٹا دینی ہے۔ ” اے

فصل — ۷

خود کو اپنی بیویوں کے لیے آراستہ کرو
عورت کے سامنے گندے میلے اور فرت انچیز بن کر سر ہو

حسن بن جہنم فرماتے ہیں:

”میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خضاب لگائے ہوئے دیکھا ہیں نے کہا: ”میں آپ کے قربان جاؤں آپ نے خضاب لگایا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ہاں بے شک مرد کا خود کو درست اور آراستہ رکھنا عورت کی عفت میں اتنا نے کا سبب ہے (کہ وہ دوسروں کی طرف نگاہیں نہ اٹھائے) بہت سی عورتیں اس لیے آؤدہ ہو گئیں کہ ان کے شوہروں نے اپنے جلیے کو درست اور آراستہ نہیں رکھا۔ کیا

تم تھیں یہ بات پسند ہے کہ تم تھاری ہیوی آشفنت حال اور پریشان بال نظر آئے؟“ میں نے عرض کی: ”جی نہیں۔“ آپ نے فرمایا: پاکیزگی، خوبصورگانہ اور بالوں کو ترشانا پسیبروں کے اخلاق میں سے ہے۔“ اے

بہت سی دوسری روایات میں مسلمانوں کو پاکیزگی اور صفائی کی ترغیب دی گئی ہے اور کئی احادیث میں خاص طور پر پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے اور مسوأ، حمام، سر دھونے، تیل لگانے، کنکھی کرنے، موخچیوں کو کم کرنے، ناخترانش، عطر لگانے اچھا بہاس پہنچنے، تمام زینتوں کو اختیار کرنے اور جائز اراستگی کی ہدایت کی گئی اور اس حد تک کی گئی کہ ”النظافة من الایمان“ یعنی موسن کی علامت پاکیزگی ہے کا فقرہ زبانِ زدِ عام ہو گیا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بزرگ اجداد سے روایت کرتے ہوئے فرمایا:

”بنی اسرائیل کی عورتوں نے عفت و تقویٰ کی راہ تک کر دی اور اس کا سبب بھروس کے اور کچھ نہیں رکھا کہ ان کے شوہر انہیں خوش رکھنے کے لیے خود کو درست اور آراستہ نہیں رکھتے تھے۔ عورتیں بھی مردوں سے اسی چیز کی توقع کرتی ہیں جن کی توقع مرد، عورتوں سے رکھتے ہیں۔“ اے

فصل — ۸

خوش کلام بنو، بات چیت میں

لطافتِ سخن اور زرمی گفتار سے کام لو

امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ایک خطے میں ارشاد فرمایا:
”عورتوں کے ساتھ ہر حال میں ہم آہنگی اور صلح و صفائی
کارویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھی اور زرم بات کرو
تاکہ وہ بھی تھمارے ساتھ اچھا راویہ اختیار کریں۔“

”نسیاقی نقطہ نظر سے بھی زبان کی زرمی سیاس یوی
کے روابط میں استحکام اور یادی نہر و محبت کو دوام بخشنے
میں بہت موثر ثابت ہوتی ہے۔“ لئے

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

”مرد کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ میں تجویز سے محبت
کرتا ہوں، کبھی اس کے دل سے نہیں نکلا گا۔“

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”حسن و خوبصورتی زبان میں پوشیدہ ہے۔“

اس کے علاوہ قرآنی آیات اور بہت سی روایات میں خوش کلامی کے
بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
فتنہ آن کا ارشاد ہے:

”وَقُولُوا لِلّٰهِ أَسْهَنَا۔“

”اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔“ لئے

حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا:

”خوش کلامی مال میں اضافے اور رزق میں کثرت
کا سبب بنتی ہے، خاندان میں مقبولیت اور جنت میں
داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔“

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ گالی دینے والوں، عیب جو اور بد زبان
لوگوں اور لیٹ کر مانگنے والے گدا کو دشمن رکھتا ہے۔
اور بروبار، باعفت اور پاک امن لوگوں کو دوست رکھتا
ہے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اسے بڑی اور گندی
باتوں سے بچاؤ۔“

فصل — ۹

ابنی بیوی کو معروف کا حکم دو اُسے منکرے روکو

اگرچہ ان دونوں فرائض کا تعلق اسلام کے کلی احکام سے ہے اور جس شخص پر بھی اس فریضے کی ادائیگی لی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے ان دونوں کی واجبات اور اللہ کی طرف سے عائد ہونے والے فریضے کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے حتیٰ کہ اگر عورت کے کبھی امکان قدرت میں ہوتوا سے مرد کو معروف کا حکم دینا چاہیے اور اسے منکرے روکنا چاہیے۔

لیکن شہر کے بارے میں اس فریضے کی بہت زیادہ تأکید آئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا:

“وَأَنذِرْ رُعْشَ يُرَقَّكَ الْأَقْرَبِينَ：“

”اپنے خویش و اقرباً کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراو۔“

ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا:

”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”خود کو اور اپنے

اہل دعیا کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ

اور پیغیر ہوں گے؟“ تو پیغمبر حم اپنی عورتوں کو دوزخ کی

آگ سے کس طرح بچائیں؟“ آپ نے فرمایا: ”انھیں نیکی

کا حکم دو اور بُرانی سے روکو۔“ اس شخص نے جواب: ”ام

انھیں امر و نہی کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں کرتیں۔“ آپ نے
نے فرمایا: ”اگر تم نے امر و نہی کی ہے تو اپنی ذمہ داری پوری
کر لی۔“ ۱۰۷

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”عورتوں کو نیک راستے پر چلانے کے لیے (صرفت
ہوتی) زدو کوب کرو“ ۱۰۸

فصل — ۱۰

بیوی کے حکم کے آگے ستر یہ مضم نہ کرو
عورتوں کے غلام اور ان کی خواہش کے بندے نہ تو
سائے کی طرح ان کے پیچھے نہ لگے رہو

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”جو شخص لبس اپنی بیوی کے زیر حکم رہتا ہے اللہ تعالیٰ
اسے من کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔“ ۱۰۹

لئے دسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۹۲ خ ۲
لئے نکاح المستدرک باب ۶۶ خ ۶۳
تھے دسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۹۵ خ ۱

توضیح:

اس حدیث اور دوسری احادیث میں عورت کی فرمائیں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سے مرد یہ ہے کہ پہلے تو عورت کو ہوس پرست اور لفافی خواہشات کا غلام اور اسلامی ضوابط سے خود کو خارج رکھنے والی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ مرد کو بھی بغیر کسی قید و شرط کے عورت کی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی لگام نہیں دے دینی چاہیے۔

کیونکہ اس صورت میں فساد اور تباہی پھیلے گی اور خاندان کے تمام افراد اور ان کی نسل میں بے حیائی اور منکرات پھیل جائیں گے۔ بعد میں ذکر کی جانے والی احادیث اس بات کی تائید کرتی ہیں۔

نیز آپ نے فرمایا:

”عورت کی اطاعت پیشمنی کا ذریعہ ہے۔“ لے

حضرت امام حبیر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”عورتوں کے ارادے کے غلام نہ بتو کیونکہ وہ تھیں اپنے ناپسندیدہ کاموں کی طرف لے جائیں گی۔“ لے

دوسری روایت میں آپ نے فرمایا:

”میمن کا سب سے شدید دشمن اس کی بُری رفتہ حیات ہے۔“ لے

لے وسائل ابواب مقدمات انکاح باب ۹۵ خ ۲
۲، ۳، وسائل ابواب مقدمات انکاح باب ۹۲ خ ۴-۵

”عورت کی غلامی ایک نادانی کا بوجھ ہے۔“ لے

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

”جو شخص مجھی اپنی لگام اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے وہ ملعون ہے۔“ لے

فصل ۱۱

اگر لڑکی تولد ہو تو بیوی کو تنگ کرے
اور بداحترانی سے مپیش نہ آئے

لڑکی تولد ہونے کے جسم میں بیوی کا موآخذہ کرنا عقل دین کی رو سے سخت ناپسندیدہ بات ہے اور اس کی سخت ممانعت ہے۔ یہ بُری سُکھ جاہلیت کی روایات اور دوڑ و حشت کی عادتوں سے تعلق رکھتی ہے (اسلام نے ان تمام جاہلیز رسموں کو پایا کیا اور ان سب کو باطل قرار دیا ہے) کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ عورت اس معاملے میں بالکل بے قصور ہے اور لڑکی کی ولادت میں اس کے اختیار

کو ذرا بھی دخل نہیں۔ دوسرا یہ کہ راطکی کی ولادت پر ترسروتی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر معتبر ہونا اور وقت دیراللہی پر ناخوشی کا انہصار کرنا اور راطکی پسیدا کرنے والی ہستی کی حکمت و تدبیر کی مخالفت کرنا ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

«اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر دو شخص جو میری قضائی پر راضی نہیں ہے اور میری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا میرے سوا اگر کوئی اور خدا ہے تو لے تلاش کر لے۔»

نبی ز فرمایا:

«جو شخص خدا کی طرف سے ملنے والی روزی پر راضی رہتا ہے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، یعنی وہ خوش و خُستہ رہتا ہے۔»

«مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں سولے خیر کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا خواہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے۔»

«جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے قضاؤ قدر کے فیصلوں کے بارے میں الزام دیتا ہے (اوہ اس کو انسان کا خیر جزاہ نہ سمجھے) تو گویا اس نے اپنے پروردگار کے بارے میں انصاف نہیں کیا۔»

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

«جو شخص خود کو قضائے الہی کے حوالے کر دیتا ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے قبضنا اس تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اجر و ثواب بھی حاصل کر دیتا ہے۔ اور جو قضائے الہی پر ناخوشی ظاہر کرتا ہے، قضائے الہی تو اس کے حق میں نافذ ہو جائے گی لیکن اسے کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔»

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

«بِسْمِهِ مُوسَىٰ كُوْمِيرِيْ قَضَاؤْ قَدْرِ پِر رَاضِيْ رِهْنَا جَاهِيْشْ
تَاكِہِ بِنِ اسْ کا نَامْ صَدِيقِينَ رَاحِلَاصَ کَسَاتِحَ پَچْ بُونَے
وَالْيَهِيْ بِنِ دَرَجَتِ كَرْبُوْنَ ۝»

«جو بھی مومن خود کو ناخوشی سے رضاۓ الہی کے سپر در کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین تقدیر کا کھدیتیا ہے۔»

«قضاؤ قدر کے ناخوش کرنے والے فیصلوں پر راضی رہنے یقین کے سب سے اوپنچے درجات میں سے ہے۔» اے

امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک نے آپ کی خدمت میں عرض کی:

«میں نے مدینہ میں شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا:

"یہ شادی کیسی رہی؟" میں نے کہا: "جو بھی سہالانی میں نے کسی عورت میں دیکھی ہے اسے میں نے اس خاتون کے اندر موجود پایا۔ البتہ اس نے مجھ سے ایک خیانت کی۔" آپ نے فرمایا: "وہ کیا ہے؟" میں نے کہا: "اس کے ہاں لڑکی تولد ہوئی۔" آپ نے فرمایا: "اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ توڑکی سے بیزار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: باپوں اور اپنے فرزندوں کے بارے میں تم ہمیں جانتے کہ ان میں سے کون تھمارے حق میں زیادہ سودمند ہے۔" (یعنی ممکن ہے کہ وہی لڑکی کجس سے تم دور بھاگتے ہو اس کا لفظ تھمارے حق میں اپنے بیٹے سے زیادہ ہو) لہ

باب چہارم

فضل — ۱

عورت کے فرائض، شوہر کے بارے میں یعنی عورت کے ذمہ مرد کے حقوق

عورت کے فرائض مرد کے بارے میں بہت سے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں:

اطاعت کرنا اور مرد کی رضا مندی حاصل کرنا، یہ عورت کا ایک عام فرضیہ ہے اور بعض مواقع پر اسے ایک واجب کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے جنسی تعلقات کے بارے میں اور کہیں جانے اور سفر کرنے میں مرد کی رضا مندی حاصل کرنا۔ اکثر مواقع پر یہ مستحب ہے جیسے کہ آگے بیان کیا جائے گا۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

MAMODALY ALIBAY SONDARJEE
Marchandises Generales
Quincailleries
TSARALALANA-ANTANANARIVO

SOMASOC
ANTANANARIVO
(MADAGASCAR)

لہ دسائل ابواب احکام الالواد باب ۵ خ ۱

”ایک عورت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسی نے عرض کی : ”یا رسول اللہ ! مرد کا حق عورت پر کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا : اطاعت اور فرمانبرداری ۔“ ۱

توضیح :

اس حدیث اور بعد میں آنے والی احادیث میں اطاعت سے مراد مرد کی ایسی فرمانبرداری ہے جو اسلامی ضوابط کے دائرے میں رہ کر کی جائے۔

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا :

”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید قربان کے روز ایک اونٹ کی منجی پیٹھ پر سوار تھے اور مدینہ کے دروازے کے باہر تشریع لے جا رہے تھے، راستے میں آپ کی ملاقاً چند عورتوں سے ہوئی۔ آپ رک گئے اور فرمایا : عورتو! صدقہ دیا کرو اور اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کیا کرو ۔“ ۲

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتوں کی بیعت کے ذکر میں فرماتے ہیں :

”حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : عورتو! سنو، میں تم سے اس امر کے بارے میں بیعت لیتا ہوں

کر کی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکیے نہ کرو، پھری اور زنا نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اپنے بخنوں تہمت و افسوس سنت گھڑو (نما جائز اولاد اپنے شوہر کے گھر نہ لاف) اور پسیدیہ معروف کاموں میں شوہر کی نافرمانی مت کرو، کیا تم اس کا اقرار کرتی ہیں ۔“ ۳

”اگر عورت پانچ وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، خاتم خدا کی زیارت کرے، شوہر کی اطاعت کرے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کو پہچانے تو وہ پھر جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔“ ۴

مراد یہ ہے کہ وہ اپنے شرعی اور اسلامی فرائض کو انجام دے اور اس کلام کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ مرد کی رضا مندی حاصل کرنا عورت کی لازمی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”کیا میں سختاری ان بہترین عورتوں کی نشاندہی نہ کروں جن کا بہشت استھان کر رہی ہے۔ وہ عورت جو اولاد پیدا کرنے والی اور نہ ربان ہو، جب کبھی اس سے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے یا وہ اس سے ناراض ہو تو وہ اس سے معافی

۱۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۱۶ خ ۱

۲۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۲۹ خ ۲

۳۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۹ خ ۱

۴۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۹۱ خ ۳

حلب کرنے کے لیے اس کے پاس آئے، اس کا ہاتھ تھامے اور ہے۔ خدا کی قسم! جب تک تم مجھ سے راضی اور خوش نہ ہو جاؤ گے میری آنکھیں بیند سے دُور رہیں گی۔ ” لے ” ہر شانستہ عورت جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتی ہے، واجبات پورے کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ” لے ”

” ہر وہ عورت جو نماز ادا کرتی ہے۔ ہوس رانی کے لیے گھر سے باہر نہیں جاتی، اور شوہر کی فرمانبرداری کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دے گا۔ ” لے ”

” خولا! اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مقامِ رسالت پر فائز کیا، عورت کے ذمے مرد کے حقوق ہیں۔ جب شوہر ازدواجی تعلق کے لیے خواہش ظاہر کرے تو وہ اسے قبول کرے، اس سے جھگڑا اور مخالفت نہ کرے۔“ (یعنی اپنے داخلی امور کے انتظام کے لیے باہمی مفاہمت سے کام لیں) لے ”

” عورت جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے اس نے

خدا کا حق ادا نہیں کیا۔ ” لے

فصل ۲

خود کو پاک صاف رکھے، سنگھار کے بغیر
میلی کچیلی اور نفرت انگیز بن کر نہ رہے

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

” عورت کے لیے یہ بات سرا اوار نہیں ہے کہ وہ بغیر زیور کے رہے خواہ مگلے میں ایک گلو بندیا ہارہی کیوں نہ ڈال لے۔ عورت کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ اس کے ہاتھ بے رنگ اور سادہ رہیں، کچھ نہیں تو ہاتھوں کو جندی ہی سے سرخ کر دیا کرے، خواہ وہ کتنی بھی بڑی عمر کی کیوں نہ ہو۔ ” لے ”

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا:

” عورتیں اپنے بالوں میں جو چیلہ لگاتی ہیں اس کا

لگانا کیسا ہے؟" آپ نے فرمایا: "کوئی حسرج نہیں، عورت اپنے شوہر کے لیے جو بھی آرائش کرے جائز ہے۔" اے

عورت کہتی ہیں:

"حضرت علی ابن ابی طالب کی بیٹی، حضرت فاطمہ کی خدمت میں، میں نے حاضری دی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت موجود تھی، اس نے اپنی گردن میں ایک مالاڑاں کھنچتی اور اس کے ہاتھوں میں دست بند بھی تھے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا: "یہ بات مکروہ ہے کہ عورت (بغیر نگھار) کے مرد کی طرح رہے۔" تھے

فضل — ۳

عفّت کی حفاظت کرنے والے احوال سے بغیر احجاز باہر جائے

یہ شوہر کے اتمتین حقوق میں سے ہے اور اس کا شمار عورت کے سب سے زیادہ سودمند فرائض اور اس کی بہترین صفات میں ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے

اے وسائل ابواب مقدمات انکاج باب ۱۰۱ خ ۲

جذب نکاح المستدرک باب ۴۲

دین کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت و اہمیت کو محفوظ رکھتی ہے اور خاندانی معاشرہ کی بنیاد کو ضبوط نباتی ہے۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"گھر میں جم کر بیٹھی رہو، پچھلے دور جاہلیت کی خواہیں
کی طرح خود آرائی نہ کرو۔" تھے

ایک عورت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا:

"مرد کا حق عورت پر کیا ہے؟" آپ نے فرمایا:

"ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی رضا مندی حاصل کرے بغیر جہاں چاہے گھومتی پھرے، اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کا نہیں کے فرشتے اور غصب و رحمت کے تمام ملائکہ اس پر اس وقت تک نفرین یعنی جیسیں گے جب تک وہ گھر واپس نہ آجائے۔" تھے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"ہر وہ عورت جو خود کو خوشبو میں بسا کر باہر جائے وہ لعنت کا مہلت بنی رہتی ہے، جب تک کہ گھر واپس نہ آجائے۔" (یعنی ایسا اس صورت میں ہو گا جب کہ اس نے اخراج کی راہ اختیار کی ہو یا کسی بڑے ارادے سے باہر نکل دیو) تھے

اے سورہ احزاب ۳۳ آیت ۳۳

تھے وسائل ابواب مقدمات انکاج باب ۷۹ خ ۱

تھے وسائل ابواب مقدمات انکاج باب ۷۹ خ ۱ - بخار الانوار جلد ۷

ص ۳۲۹ اور جلد ۱۰۳ ص ۲۳۲

حضرت امام حجف صادق علیہ السلام نے فرمایا:
 "پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں
 قبلیہ انصار کا ایک شخص سفر پر روانہ ہوا اور اس نے جاتے
 ہوئے اپنی بیوی کو تماکید کی کروہ گھر سے باہر نکلا جب تک
 کہ میں گھر والپس نہ آجائوں۔ زیادہ عرصہ نہیں گز را کہ اس عورت
 کا باپ بیمار رہ گیا۔ اس عورت نے ایک قاصد کو بھیج کر
 پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر سے نکلنے اور باپ
 کی عیادت کے لیے جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا
 "گھر میں بیٹھی رہو اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرو۔" باپ کی
 حالت نازک ہو گئی، اس عورت نے پھر آپ کی خواست میں
 پینام بھیجا اور اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے وہی جواب دیا۔ باپ کا استقالہ ہو گیا۔ اس نے پھر اجازت
 طلب کی کہ اسے اپنے باپ کی نماز جنازہ میں شرکت کا موقع
 دیا جائے۔ پھر حضور مسیح نے وہی جواب دیا۔ حتیٰ کہ باپ کو
 اس کی قبر میں دفن کر دیا گیا اور اس عورت نے گھر سے باہر
 قدم نہیں نکلا۔ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیام
 بھیجا کہ: "اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اس فرمانبرداری پر تھے
 اور تیرے باپ کو بخش دیا۔" ۱۷

پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولا سے فرمایا:

۱۷۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۹۱ خ ۱

۱۷۔ نکاح المستدرک باب ۶۰ خ ۲

۱۷۔ بخار الانوار جلد ۱۰۳ صفحہ ۲۵۲ شمع

"اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مقام رست
 پر فائز کیا ہے جو بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر
 گھر سے نکل کر کسی شادی کی مجالس میں شرکت کرتی ہے تو
 اللہ تعالیٰ اس پر چالیس بار عنت بھیجا ہے۔" ۱۷

علی بن جعفر نے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا:
 "کیا عورت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ
 اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے؟" آپ نے
 فرمایا: "نہیں۔"

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:
 "اپنی خواہیں کو اجنبیوں کے ساتھ اختلاط سے دور
 رکھو۔ کیونکہ وہ جس قدر حجاب و حیا کے ساتھ رہیں گی ان
 کی عفت محفوظ رہے گی۔ اور یہ نکست اپنے پیش نظر گھر کو
 ان کے باہر جانے اور منظر عام پر آنے کا فسار ایسا ہی ہے
 جیسے کہ تم ایسے لوگوں کو اپنے گھر لے جاؤ جو قابلِ اعتماد نہ ہوں
 اور اگر تم اس طور پر لوگوں میں معروف ہونا چاہو تو پھر
 یہ کام حمزور کرو۔" ۱۷

پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”چارچیزیں مکر شکن ہیں (ان میں سے ایک
یہ ہے) ایک ایسی عورت جس کی شوہر تھنا نہ کرے لیکن
وہ شوہر کے ساتھ خیانت کرے۔“ ۱۷

فصل ۲

شوہر کو تکلیف زدے ہندخواہ بذبان بد کلام اور ترشش رو بن کر تھے

پیغمبرِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جو عورت اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے اس کی
نمایا اور اس کا کوئی عمل خیر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا
جب تک کہ وہا پنے شوہر کو راضی نہ کرے۔ ابھی عورت خواہ
شب و روز نمایاں پڑھے، روزے رکھے، غلام آزاد کرے
اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرے۔ آخر کار یہ عورت سب سے
پہلے اُتھی دوزخ میں داخل کی جائے گی۔ اور وہ مرد بھی جو
اپنی رفتیہ حیات کو اذیت پہنچائے اور اس کے حق میں ظلم د

ستم روا رکھے اسی عذاب اور کیفر کردار کو پہنچے گا۔“ ۱۸

توضیح:

اذیت و تکلیف دینے سے مراد نبیر کری وجہ اور عذر کے ایسا کرتا ہے، ”شرعی
احکام اور یا قادر تی حوارث کی بنا پر کوئی اذیت پہنچتی ہے تو وہ اس سے مستثنی ہے۔ اگر
شوہر عورت سے اس یہ ناراضی ہو کر وہ اپنے اوپر واجب فرائض کو پورا کر رہی ہے تو
عورت کتنا گاہ کار نہیں ہو گی۔ اگر عورت غیر اختیلی حوارث سے دوچار ہو، جیسے مزانج کی
سمتی و کسالت اور زملکی کا تولد ہزنا عورت کی اپنی مرضی کے نبیر رشتہ داروں کا آنا جانا
اگر ان نیچے اختیاری اسباب کی بنا پر شوہر کو اذیت و تکلیف پہنچتی ہے تو عورت اس سے
میں ذمہ دار نہیں ہو گی۔

اسی طرح عورت کو بلا وجہ مارنے کی مخالفت کی گئی ہے اگر عورت مرد کے
افلاس یا بیماری کی وجہ سے ناخوش ہو تو مرد سے اس کا مواجهہ نہیں ہو گا۔
ہاں اگر یہ چیز نہ ہو تو اور حسرج کی حد میں پہنچ جائے تو وہ اسے
طلاق دے دے۔

پیغمبرِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے خطبہ دیتے ہوئے
فرمایا:

”عورتوں اصدقہ دُخواہ اپنے زیور میں سے یا ایک
دانہ خرمہ کی صورت میں، کیونکہ محخارے دوزخی ہونے کا
خوف ہے۔ اس لیے کہ تم بد زبانی کرتی ہو اور لعنۃ صحیحی ہو
اور شوہر کی خدمات کے لیے اس کی شکر گزار نہیں بنتی ہو۔“ ایک

عورت نے اس پر کہا: "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم وہ نہیں جو مادران فراضن اور کرتی ہیں۔ پچھوں کو مجہبیوں اپنے شکم میں پرورش کرتی ہیں، سچھرا خبیں دو دھمپیاتی ہیں کیا یہ گھر کو سنبھالنے والی رٹکیاں اور سجاہیوں سے محبت کرنے والی یہیں ہماری جنس میں سے نہیں ہیں؟" آپ نے فرمایا: "کیوں نہیں، تم پچھوں کو اپنے شکم میں پرورش کرتی ہو اور پچھوں کی ولادت تکھاری گودوں میں ہوتی ہے سچھر تم انھیں بڑی محبت اور پیار سے دو دھمپیاتی ہو اگر ان تمام خدمات کے ساتھ عورتیں اپنے شوہروں کو ناراض نہ کرتیں اور انھیں اذیت نہ دیتیں تو کوئی نماز گزار عورت آتشِ دوزخ میں زجلتی۔" ۱۷

دریافت کیا:

"جس عورت اپنے شوہر کو شخص میں لاتی ہے کیا اس کی نماز قبول کی جائے گی؟ اور وہ ائمۃ تعالیٰ کے حضور حافظ ہو گی تو اس کا کیا حال ہو گا؟" آپ نے فرمایا: "اس کی زندگی معصیت اور گناہ میں بسر ہو گی جب تک کہ شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔" ۱۸

سچھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولا سے فرمایا:

"عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کی قدرت و توانائی سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے یا اس کی شکایت کسی دوسرے کے پاس خواہ وہ اپنا ہو یا بیکار لے جائے۔" ۱۹

توضیح:

اگر صبر و تحمل اور نیند و فسیحت سے مسئلہ حل ہو جائے تو بہتر ہے یہ کہ مرد اگر عورت پر ظلم کرے اور اسے برباد کرنے پر نہ جائے اور عورت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے کہ وہ کسی دوسرے کے پاس اپنی شکایت لے جائے اور خیر خواہ مومنوں سے اور قاضیانِ شرع سے رجوع کر کے ظالم کے سد باب اور اصلاح کار کی کوشش کرے۔ اس صورت میں دوسروں کے پاس شکایت لے جانا جائز اور کبھی واجب ہوتا ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "جس عورت بلا وجہ اپنے شوہر کو غصتے میں لاتی ہے اور پوری رات اسی حال میں گزار دیتی ہے۔ ائمۃ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، جب تک کہ شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔" ۲۰

علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسی بن جعفر علیہ السلام سے

۱۷۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح ب۔ ۸۰ خ ۸

۱۸۔ نکاح المستدرک باب ۶۰ خ ۲

۱۹۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح ب۔ ۸۰ خ ۱

۲۰۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح ب۔ ۸۰ خ ۲

”تم خور میں لعنت بھیجنے والی اور نا شکری ہو، دس دس سال اپنے شوہر کے گھر میں ناز و لعنت کے ساتھ زندگی گزار قی ہو لیکن اگر ایک روز بھی تنگ دستی ہو جائے یا کوئی پریشانی اور اختلاف رونما ہو تو شوہر کے چھپے لطف و کرم اور انعامات کو نظر انداز کر کے تم اس سے کہتی ہو کہ میں نے کبھی تجھ سے کوئی بھلائی نہ دیکھی۔ لیکن تمام خور تین ایک حصی نہیں ہیں۔“ اے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے فرمایا :

”جو خورت اپنے شوہر کے ساتھ اتفاق کے ساتھ نہیں رہتی اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھہ ڈالتی ہے تو اس کا کوئی نیک کام ثبوٹ نہیں کیا جاتا اور وہ خدا سے اس حال میں ملے گی کہ اللہ اس سے ناراض ہو گا۔“ ۲۷

فصل ۵

خانہ داری کے فرائض، پکوان، دھلانی، گھر کی صفائی اور سلامی حصیہ کا مأجوم دے، شوہر کی مذکورے یہ اسکے پسندیدہ فرائض ہیں

حضرت امام حفظہ صارق علیہ السلام سے مردی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله وسلم

۱۰۶ نکاح المستدرک باب ۷۰ خ ۲
۱۰۷ بخار الانوار جلد ۷ صفحہ ۳۳۵ می

نے فرمایا :

”جو خورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں خدمت کی نہیں سے چیزوں کو قرینے سے رکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر ڈائے گا اور جو بھی اللہ کا منظور نظر بن گیا اسے عذاب خداوندی سے امان مل گئی۔ (ایسا اس صورت میں ہو گا جب کہ اس کے حساب میں ناقابل معافی کبھی نگناہ نہیں ہوں گے)“ ۲۸

دوسری روایت میں آپ نے فرمایا :

”علیٰ اور فاطمہؓ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله وسلم سے درخواست کی کہ آپ ازدواجی زندگی کے فرائض دونوں کے درمیان تقسیم فرمادیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے فرمایا: گھر کے داخلی کام زہرا کے لیے ہیں اور بیرونی کام علیٰ کے ذمے ہیں۔“ حضرت فاطمہؓ فرماتی ہیں: ”اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں اس تقسیم کا کس قدر خوش ہوئی کمیرے باپ نے مجھے مردوں کے درمیان رہ کر کام کرنے کی تکلیف سے دور رکھا۔“ ۲۹

ایک دوسری روایت میں آیا ہے :

”ایک شاستر خورت ہزار ناشا سائسہ مددوں سے بہتر بے جو خورت بھی شوہر کی بھلائی کے لیے سات دن کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنیم کے سات دروازے بند کر دیتا ہے

۲۸ مسائل ابواب احکام الاولاد باب ۶۴ خ ۱
۲۹ مسائل ابواب احکام الاولاد باب ۸۹ خ ۱

اور جنت کے آٹھ دروازے اس پر کھول دیتا ہے کہ وہ جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ۱۷

توضیح :

یعنی عورت کا یہ عمل گناہوں کی بخشش و معافی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بتاتا ہے لیکن یہ روایت کی تشریع کرتے ہوئے ہم نے جس شرط کا ذکر کیا ہے وہ یہاں بھی عامد ہوگی۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے:

”اگر عورت پانی کا ایک گھونٹ بھی مرد کے ہاتھ میں دیتی ہے تو وہ اس کی ایک سال کی رستنگ (عبادت) سے جس میں وہ دن میں روزے رکھے اور راتوں کو نماز ادا کرے، بہتر ہے۔“ ۱۸

پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”خوا“ سے فرمایا:

”جو عورت اپنے شوہر کے پیله لذید غذا تیار کرتی ہے اسے تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مقدمہ کے لحاظے تیار کرے گا اور فرمائے گا کہ خوب کھا اور پی۔ یہ ان زحمتوں کی جزا ہے جو تو نے دنیا کی زندگی میں برداشت کی ہیں۔“ ۱۹

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

۱۷۔ وسائل ابواب احکام الولاد باب ۸۹ خ ۲

۱۸۔ وسائل ابواب احکام الولاد باب ۸۹ خ ۳

۱۹۔ نکاح المستدرک باب ۴۰ خ ۲

”فاطمہ زہراؓ نے حضرت علیؑ کے گھر میں داخل کام جسے روٹی پکانا اور گھر کی صفائی کرنا اپنے ذائقے لیے اور ایرام میں نے خارجی کام جسے لکڑیاں اور گھر کا سودا سلف لانا وغیرہ۔“ ۲۰

فصل ۶

شوہر کا احترام کرے اور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
 ”کچھ لوگ پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے عرض کیا: ”ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں“ (کیا آپ بھی ایسے احترام کی ہیں اجازت دیں گے؟) آپ نے فرمایا: ”نهیں، اگر میں اس طرح کا حکم دینا پاہتا تو میں عورت کو حکم دینا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔“ ۲۱

۲۰۔ نکاح المستدرک باب ۶۸ خ ۱

۲۱۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۸۱ خ ۱

توضیح:

یہ حدیث اور دوسری احادیث اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ عورت کو پسے شوہر کی رضا مندی حاصل کرنے اور باہمی تعلقات میں محبت و خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خاندانی زندگی کی بنیادوں میں پاکیزگی و طہارت اور دوام و استحکام پیدا کرنے میں کوئی دقیقہ فراغ نہ ادا کرنا نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم یہ بات نہ سمجھو لیں کہ یہاں اور یہاں دونوں کا حق ہے۔ لیکن فی الحال اس بحث کا تعلق عورت کے فرائض سے ہے۔

نیز طرفین کے درمیان اتفاق اور ہم آہنگی پیدا کرنے سے مراد اس چیز کو شریعت کے مطابق اور اسلامی حدود کے اندر رہ کر حاصل کرنا ہے ز کہ اسے ہر مکن طریقے سے اور بلا کسی قید و شرط کے حاصل کیا جائے۔

حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا:

”عورت کا چہاد شوہر کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا ہے۔“

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواستہ فرمایا:

”عورت کو نفع و نقصان اور شوہر کی سختی اور رزی میں صابر رہنا چاہیے جیسے کہ حضرت ایوبؑ کی بیوی نے صبر کیا۔ انھوں نے اٹھارہ سال تک اپنے شوہر کو سنبھالا اور سہارا دیا۔ انھیں نہ لایا دھلایا، ان کے لیے روٹی پکائی، البتہ اس کام میں دوسروں نے بھی ان کی مدد کی۔ وہ کبھی اپنے

شوہر کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا میں لے کر آتیں جسے وہ کھا لیتے اور خدا کا شکر بجالاتے۔ وہ انھیں کبھی چادر میں رکھ رپیجھ پر اٹھاتیں اور وہ یہ کام محبت و شفقت اور اشتعالی کی رضا کی خاطر کرتیں۔ آپ نے فرمایا: خولا! اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبوت عطا کی، جو عورت بھی سختی اور رزی میں اپنے شوہر کا ساتھ بنھائے گی اور اس کی اطاعت کرے گی اسہد تعالیٰ اسے قیامت کے دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ محشور کرے گا اور جو عورت بھی اپنے شوہر کی نیز و نتم باتوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرے گی اسہد تعالیٰ ہر بات کے بد لے راہ حق میں لڑنے والے روزہ دار مجاہد کا اجر اسے عطا فرمائے گا۔“

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

”الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عورت کی سفارش کرنے والی چیز شوہر کی رضا مندی سے زیادہ مُؤثر نہیں ہے۔ جس وقت حضرت زہراؓ نے دنیا سے کوچ کیا۔ امیر المؤمنینؑ نے ان کے سر بانے کھٹے ہو کر فرمایا: اے اللہ! میں تیرے رسولؐ کی بیٹی سے راضی ہوں تو اس کی وحشت میں اس کا مومن بن۔“

فصل — ۷

شوہر کے سوا کسی اور کے لیے خود کو آرائتے نہ کرے

”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کھرے باہر بیاس شہرت پہنچ سے منع کیا ہے (یعنی ایسا بیاس جو نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے والا اور دلکش ہو) اور ایسے زیور کے استعمال سے بھی جس سے آواز پیدا ہوتی ہو۔“ ۱۶

فصل — ۸

شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں تصرف نہ کرے

شوہر کے مال سے حاجت مندوں اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا حرام ہے اور یہ غصب کے تخت آتا ہے۔ یعنی وہ جس مقدار میں بھی شوہر کا مال تصرف میں لائے وہ اس کے ساتھ خیانت ہے۔

ایک عورت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا:
 ”شوہر کا حق کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے صدقہ نہ دے اور اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھ۔“ ۱۷

۱۶۔ نکاح المتردک باب ۸۹ خ ۵
 ۱۷۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۸۰ خ ۱

”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کھرے باہر بیاس شہرت پہنچ سے منع کیا ہے (یعنی ایسا بیاس جو نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے والا اور دلکش ہو) اور ایسے زیور کے استعمال سے بھی جس سے آواز پیدا ہوتی ہو۔“ ۱۶

حضرت امام جaffer صادق علیہ السلام نے فرمایا:
 ”جو عورت، شوہر کے سوا کسی اور کسی خاطر خوبصورتگانی ہے اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔“ ۱۷

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولا سے فرمایا:
 ”خولا! اپنے زر اور زیور شوہر کے سوا کسی اور کی نگاہوں کے سامنے نہ لا۔“

”شوہر کی غیر موجودگی میں خوبصورتگاہ۔ تم میں سے جو خدا پر اور روزِ قیامت پر لیقین رکھتی ہیں وہ شوہر کے سوا کسی اور کے لیے خود کو آرائتے نہ کریں، سر اور کلائیوں کو ظاہر نہ کریں، اگر ایسا کیا تو اپنے دین کو تباہ اور خدا کو عنضبناک کریں گی۔“

۱۶۔ وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۸۰ خ ۶ - ۳

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:
”شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کسی کو نہ
روے اگر اس نے دیا تو گناہ گار ہو گی اور ثواب شوہر کو ملے گا۔“ اے

البته یہ بات پسندیدہ ہے کہ عورت خودا پنے مال میں بھی تصرف کے لیے
شوہر کی رضامندی حاصل کرے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت
کے بغیر صدقہ دے یا کسی کو کچھ بخش دے یا مال نذر میں دے
دے۔ بے شک زکوٰۃ، صلح و رحمی اور احسان کے لیے اجازت
کی ہم زورت نہیں۔“

توضیح :

مرد کے سر بریست اور سر بریہ خاذان ہونے کا تقاضا ہے کہ اگر عورت
اپنے مال سے بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرے تو اسے خاذان کے سر بریہ کو اگاہ
رکھنا چاہیے کیونکہ میاں بیوی کے درمیان اخلاص و محبت کا یہی تقاضا ہے اور اس باب
میں جزویات آئی ہیں وہ اسی چیز کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس بات کا تعلق مستحب صدقہ
او رشیقی اخراجات سے ہے، جہاں تک واجبات کا تعلق ہے انہیں مرد اور
عورت دونوں کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا:

لے وسائل ابواب مقدمات النکاح باب ۷۹ خ ۳

”عورت شوہر کے مال کی نگران اور ذمہ دار ہے：“ اے

فصل — ۹

بیوی اور بچوں پر توجہ دینے میں اعتدال

ارشاد رب المتعال ہے:

”اے ایمان لانے والوں! مختاری بیویوں اور بچوں
بچوں میں سے بعض بختارے دشمن ہیں۔ ان سے ہوشیار
رہو۔“ اے

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا:

”اپنی توجہ کا زیادہ حصہ بیوی بچوں پر صرف نہ کرو۔
اس طرح کا پسند سے آپ سے غافل ہو جائی اگر وہ اللہ تعالیٰ
کے دوست ہوں گے تو اس اللہ تعالیٰ اخوبیں بے کار یونہی ہیں
حضرتؐ کے اگر وہ خدا کے دشمن ہوں گے تو نیکوں

لے نکاح المستدرک ب ۶۲ خبر

لے سورہ القابن آیت ۱۴

تم اُن پر اس قدر اپنی جان چھڑ کو۔“ لے

فصل ۱۰

عورت کی تادبیب

ارشادِ رب العزت ہے :

”وَهُوَ عَوْرَتِيْ جَنْ کِی نافرمانی کا تھیں خطرہ ہو انھیں
لصیحت کرو (اور اگر نصیحت قبول نہ کریں) ان کے ساتھ
بستر میں آرام نہ کرو (اور اگر اس کا بھی اثر نہ ہو انھیں مارو
اگر انھوں نے اطاعت اختیار کی تو پھر تھیں ان سے تحرمن
کا حق حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ بلند مقام اور بزرگ ہے۔“
(اس آیت کے متعلق مطالب کا ذکر کیا جا چکا ہے)

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”لوگو! عورتوں کا تم رحم ہے اور اسی طرح بختوار ان
پر بختوار حق یہ ہے کہ کسی دوسرے کو بختوارے بستر میں

لئے بخار الانوار ج ۱۰۳ ص ۳۷۷ نجح

تھے سورہ نسا ۳۳ آیت ۳۶۹

آنے کی اجازت نہ دیں اور جس کسی کو تم ناپسند کرتے ہو بختواری
اجازت کے بغیر اسے بختوارے گھر میں نہ آنے دیں، وہ کوئی
بڑا کام نہ کریں اور اگر انھوں نے اپنے فرائض کے خلاف روشن
اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے تھیں یہ اجازت دی ہے کہ تم ان
سے بستروں میں کنارہ کشی اختیار کرو اور انھیں رشدت و
سمختی کے ساتھ نہیں بلکہ انداز میں (مارو، اگر انھوں نے فرما بڑا کی
اختیار کی تو انھیں معمول کے مطابق لفظت، خود رک و پشاک
فراءم کرو۔ کیونکہ وہ خدا کی امانت ہیں جو بختوارے ہو انھوں نیں
دی گئی ہے اور انھیں تم نے قرآن کے حکم سے (اوہ الی قرآن
کے مطابق) اپنے یہے حلال کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔“ لے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”میں اس شخص کے بارے میں سخت حیران ہوں جو
اپنی بیوی کو مارتا ہے حالانکہ وہ خود لکڑی کی مار کا زیادہ
مستحق ہے عورتوں کو (اگر وہ بختوارے ساتھ اتفاق سے
نہ رہیں) لکڑی سے نمارو کیونکہ لکڑی سے مارنا فقصاص
رکھتا ہے۔“ لے

نام بھی میرے نام پر زر کھے، اس نے میرے ساتھ ناہر ہوئی کیا۔“ لئے

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:
”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بُرے ناموں کو خواہ
وہ اشخاص کے ہوں یا شہروں کے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔“ لئے

”شیطان جب سننا پے کسی شخص کو اس نام سے پکارا
گیا ہے جو ہمارے دشمنوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے
(اور اس طرح کے نام لوگوں کے اندر موجود ہیں) تو وہ خوشی
سے پھولانہیں سماں۔“ لئے

”سب سے صحیح نام وہ ہیں جو اطاعت اور بندگی کو
ظاہر کریں (جیسے عبداللہ، خدا کا بندہ۔ عبدالرحمن، خدا کے
تہربان کا بندہ) اور ہمیں نام پیغمبروں کے نام ہیں۔“ لئے

امام حفیظ صادق علیہ السلام نے فرمایا:
”اچھے ناموں کا انتساب کرو کیونکہ قیامت کے دن تمھیں
معتخارے ناموں سے بلا جائے گا۔ اے فلاں شخص اُنکھے،“

لئے وسائل ابواب احکام الاولاد باب ۲۷ خ ۲

لئے وسائل ابواب احکام الاولاد باب ۲۷ خ ۶

لئے وسائل ابواب احکام الاولاد باب ۲۷ خ ۳

لئے وسائل ابواب احکام الاولاد باب ۲۷ خ ۱

باب پنجم

فصل —

بچوں کی پروردش

۱۔ اچھا نام رکھنا

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”اے علی!“ باب پر میٹے کا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا
نام رکھے اور اسے اچھے اخلاق سکھائے۔“ لئے

آپ نے فرمایا:
”جب شخص کے ہاں چار بڑے پیڈا ہوں اور وہ کسی ایک کا

لئے وسائل ابواب احکام الاولاد - باب ۲۷ خ ۲

اے فلاں شخص اُٹھو ۔ ” ۱۷

دوسری روایتوں میں بھی یہ بدایت کی گئی ہے کہ ائمۃ علیہم السلام کے
سارک نام رکھے جائیں۔
یہ روایتیں کتاب وسائل الشیعہ میں اولاد کے احکام کے تحت
ذکر کی گئی ہیں۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”بَأْبِنِ طَافَ سَعَى إِلَيْهِ أَوْلَادُهُ كَمَا يَعْطِيهِ أَهْلَهُ
نَامَ هُزْتَابَ، أَنْتَ هُزْتَابَ كَمَا يَعْطِيهِ أَهْلَهُ“ ۱۸

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا:
”اپنے فرزند کے بیٹے بہترین نام اور کنیت کا اختیار کرو“ ۱۹

”روم کے بادشاہ نے ایک فرانی غلام پیغمبر اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور بدیے کے روانہ کیا جس کو
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا:
”عبدشش“ (سورج کا بندہ) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا: ”اپنا نام بدل دے۔ میں تیرا نام عبد الیاب (خدائی)

۱۷ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۱۳ خ ۷

۱۸ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۱۵ خ ۲

۱۹ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۱۶ خ ۵

نجاشدہ کا بندہ) رکتا ہوں ۔ ” ۲۰

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”جس خاندان کے ناموں میں کسی پیغمبر کا نام شامل ہو
وہ ہمیشہ برکت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔“ ۲۱

حضرت امام حفیظ صادق علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا:
”بم آپ اور آپ کے اجداء کے ناموں کو اپنے بچوں
کے ناموں کے لیے منتخب کرتے ہیں کیا یہ بات ہمارے لیے
سودمند ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”یقیناً سخا! آیادین،
دوستی اور دشمنی سے الگ چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
”کہدو اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا
تم سے محبت کرے اور تھمارے گناہوں کو بخش دے۔“ ۲۲

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ظاہر کرتے ہیں اچھے
ہیں۔ جیسے خدا اللہ اور عبد الرحمن۔“ ۲۳

یعقوب کہتے ہیں :

- ۱۷ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۱۳ خ ۷
- ۱۸ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۱۵ خ ۲
- ۱۹ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۱۶ خ ۵
- ۲۰ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۱۷ خ ۱

”میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے فرزند موسیٰ علیہ السلام کے گپوارے پر کھڑے ہیں اور ان سے دیکھے دیکھے باشنا کر رہے ہیں۔ میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ دونوں کی باشنا طولی ہو گئیں۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھا آپ نے کہا آؤ۔ اپنے مولا کو سلام کرو۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا۔ بچے نے بڑی فیض زبان میں میرے سلام کا جواب دیا اور کہا: تم نے مل اپنی لڑکی کا جونام رکھا ہے جاؤ اسے تبدیل کر دو۔“ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا: ”آن جناب کے حکم کو بجا لاؤ۔ کیونکہ یہ تھاری رشد و ہدایت کا سبب ہے۔“ ۱۷

۲۔ ختنہ کرنا

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے غلیل ابراہیم علیہ السلام کو دین۔“ کے ساتھ بھیجا اور ہدایت فرمائی۔ موچھیں کم کرو، ناخن تراشو، بغل اور زبریشکم کے بال صاف کرو اور ختنہ کرو۔“ ۱۸

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”اپنے فرزندوں کی ختنہ ساتویں روز کر دیا کرو۔ اس سے

۱۔ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۵۲ خ ۵

۲۔ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۵۲ خ ۹

۳۔ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۵۵ خ ۱

۴۔ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۳۸ خ ۱

۵۔ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۳۸ خ ۲

انھیں پاکیزگی حاصل ہو گئی اور ان کا گوشت جلد نشوونما پاگا گا۔“ ۱۶

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا:
”ختنہ مرد کے لیے ایک واجب سنت ہے۔“ ۱۷

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا:
”جو شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا سے ختنہ کرنی چاہئے خواہ اس کی عمر اسی سال کیوں نہ ہو۔“ ۱۸

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”ختنہ فطرت کا جزو ہے۔“ (یعنی دین کا حصہ ہے) ۱۹

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا:
”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گئی: ابراہیم کے طرتیہ حنیفت کی سیروی کرو۔“
اس مست ابراہیم کے دس مراسم ہیں، ان میں پاکیزگی حاصل کرنا اور ختنہ شامل ہے۔“ ۲۰

۱۔ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۵۲ خ ۵

۲۔ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۵۲ خ ۹

۳۔ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۵۵ خ ۱

۴۔ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۳۸ خ ۱

۵۔ نکاح المستدرک ابواب الاولاد باب ۳۸ خ ۲

سے ایک صفت کا تعلق رحمائیت اور حمیت سے ہے اسی طرح انسان کی بہترین صفات کا تعلق رحم اور جذبہ ہمدردی سے ہے۔ حاصل یہ کہ ان صفات سے محروم شخص بالغ یا اور دوزخ کا مستحق قرار پائے گا۔ مگر یہ کہ وہ تو پر کرے اور اپنی اصلاح کرے۔

”اپنے فرزندوں کو زیادہ پیار کیا کرو کیونکہ ہر بوسے پر تھیں بہشت میں ایک درجہ ملے گا۔“ ۱۷

یہ بات مستحب ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور نیکی میں امتیاز نہ برتو اور علم و ادب کے سوا کسی اور وجہ سے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے دو بچے ہیں اس نے صرف ایک کو پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے فرمایا:

”تم نے دونوں کے درمیان مساوات کو کیوں برقرار نہ کر کھا۔“ ۱۸

حضرت امام حبیر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا:

”ایک شخص بخشش و عطا کرتے ہوئے بعض فرزندوں کو بعض پر ترجیح دیتا ہے (کیا یہ جائز ہے؟)۔ آپنے فرمایا: اگر اس نے صحیح ترجیح دی تو اس میں کوئی عبیب نہیں۔ یعنی عقل، علم، دین اور ادب کی بناء پر ترجیح۔“ ۱۹

میرے والد فرماتے تھے :

”میں کہجی اپنے فرزندوں میں سے کسی ایک پر زیادہ نوازش کرتا ہوں، اسے اپنے زادو پر سُجھاتا ہوں اور اس پر بہت زیادہ پیار و محبت پختا کرتا ہوں جبکہ میرا ایک دوسرے بیٹوں اس عنایت و تکریم کے زیادہ لائق ہے۔“ میں دوسرے بیٹوں کے ساتھ محبت و نوازش کا یہ سلوک اس لیے کرتا ہوں کہ میرا وہ لائق و شاستہ فرزند حضرت پرسف علیہ السلام کی سرفوٹ سے دوچار نہ ہو جانے اور حبائیوں کے حصہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرسف علیہ السلام کے قصے کو ہمارے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر حسد نہ کریں اور اولاد میتو ب کی طرح اپنے بھائی کو اذیت نہ دیں۔“ ۲۰

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے فرمایا:

”فَنَرِزَنْدَهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ“
بچے فوج کے کمانڈر اور ان کے بزرگ ہمارے دشمن ہیں، اگر زندہ رہیں تو ہمارے لیے رنج اور آزار ایش کا سبب اور اگر مر جائیں تو عمر کا باعث نہیں۔“ ۲۱

بَابُ شَشْتِمٍ

فَصْلٌ — ۱

طَلاقٌ

طَلاقٌ نَّاپْسِنْدِيْدَ تِرِنْ حِیْزِرُولْ مِیْ سَکِے هَے،

اوْحَرَامٌ کِیْ شَبَاهَتٌ رَّكْنَهُنَّ دَالِیْ حَلَالٌ حِیْنَهُنَّ

مَگَرْ كُمْسِیْ عَذَرٌ کِیْ بَنَا پَرْ

بَیْغَمِرْ اَرْمَ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ نَے فَرمَا يَا:

“اَللَّهُ تَعَالَیٰ کَنْ زَدِیْکَ کُوئیْ گَھَرَ اَسْ گَھَرَ سَے زِیادَهِ مَجْوَبَهُ

نَہِیںَ ہے جو شادِی سَے آبادَ ہو اور کوئیْ آشِیَّا نَ اَللَّهُ تَعَالَیٰ کَ

نَزَدِیْکَ اَسْ آشِیَّانَے سَے زِیادَهِ نَاپْسِنْدِیْدَ نَہِیںَ ہے جو اسلام مِیںَ

طَلاقٌ کَ ذَرِیْعَے سَے ٹُوٹَ جائے۔”۱۷

۱۷۔ دَسَالِ اَبَوَابِ مَقْدَمَاتِ الطَّلاقِ بَابٌ اَخْبَارٌ ۲-۱

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

”بَیْغَمِرْ اَرْمَ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ کِی ایک شخص سے
مَلَاقَتٌ ہوئی۔ آپ نے فرمایا: ”تیری ہیوی کا مَعْالِمَہ کیا
تَکَہْ پہنچا؟“ اس نے کہا: ”میں نے اسے بلا سبب طلاق
دے دی۔“ آپ نے فرمایا: ”کیا بلا سبب؟“ اس نے
کہا: ”جی ہاں!“ بعد میں اس شخص نے ایک دوسری ہوت
سے شادِی کی اور بھرا سے بھی طلاق دے دی۔ بَیْغَمِرْ اَرْمَ
صلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ نے فرمایا: ”اَللَّهُ تَعَالَیٰ ہوں باز مردوں
اور عورتوں کو ناپستِ کرتا ہے (اَن بَرْعَنْتَ بَحِیْتَابَهُ)“ ۱۶۔

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:

”شادِی کرو، طلاق نہ دو کیونکہ طلاق عرشِ الٰہی کو
پلا دیتی ہے۔“ ۱۷

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”اَللَّهُ تَعَالَیٰ نے طلاق کے بارے میں اس قدر تَائِیدٍ
اواس کی اس قدر برائی اس لیے کی ہے کہ وہ تفرقی اور جدالی
کا دشمن ہے۔“ ۱۸

”اَللَّهُ تَعَالَیٰ اس گھر کو پستِ کرتا ہے جس میں شادِی ہو اور
اس گھر کا دشمن ہے جس میں طلاق دی جائے۔“ ۱۹

۱۷۔ دَسَالِ اَبَوَابِ مَقْدَمَاتِ الطَّلاقِ بَابٌ اَخْبَارٌ ۲-۱
۱۸۔ دَسَالِ اَبَوَابِ مَقْدَمَاتِ الطَّلاقِ بَابٌ اَخْبَارٌ ۱-۲

«اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حلال طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دم رکھتا ہے جو طلاقیں دینے والا ہو۔» لے

”خطاب“ نے کہا:

”میں نے ابوالحسنؑ ربطاً ہر امام موسیؑ کاظم علیہ السلام مراد ہیں) کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کی بدلائی کی شکایت کرنا چاہی، قبل اس کے کہ میں اپنے لب کھولوں آپؑ نے فرمایا: ”میرے والدُنے مجھے ایک بارخ عورت دی۔ ایک روز میں نے ان سے اس کے بُرے اخلاق کی شکایت کی، انھوں نے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجویز طلاق کا اختیار دیا ہے تو تو کیوں محظوظ ہو کر بیٹھ گیا ہے؟“ جب میں نے حضرت ابوالحسنؑ کی بیات سنی تو میں نے اپنے آپ سے کہا۔ ”میرے دل کی گرہ تو کھل گئی۔“ لے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو عورت بھی (پیغمبر جبرا اضطرار کے) کوئی چیز شہر کو دے کر اس سے طلاق حاصل کر لے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور پیغمبروں اور تمام انسانوں کی لعنت ہیش

پڑتی رہے گی اور جب موت کافر شستہ اس کی روح قبض کرنے آئے گا تو وہ اُسے آگ کی بشارت دے گا۔“ لے

توضیح:

بعض ادیان اور مذاہب جیسے مسیحیت کے ماننے والے، طلاق کو بالکلی طور پر جائز نہیں سمجھتے۔ ہمیں اس بات پر اطمینان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شرائع میں فی الواقع یہ حکم موجود ہو گا۔ بعید نہیں کہ بات اس مذہب کے تحریف شدہ اور خود خاتمة حکام کا جزو ہو۔

بہرہ جال خاص شرائط کے ساتھ طلاق کا جائز ہونا، اسلام کے ان حکام میں سے ایک حکم ہے جس کی حکمت و مصلحت طوبی عرصے کے عنود فکر اور بہیت سے تحریکات کے بعد انسانی معاملوں پر واضح ہو چکی ہے۔

مناسب ہے کہ اس سلسلے میں کتاب نظام حقوق زن در اسلام میں رجوع کیا جائے یہ کتاب استاد شبید مرتضی امیریؑ کی تائیت ہے جو اپنے مؤلف کی طرح عمیق اور پر نفع ہے اس عالی مقام محقق نے اپنی اس تائیت میں قانون طلاق کے فلسفہ اور اس کے صالح کو اور ان مفادوں اور نقصانات کو جو درسرے مذاہب میں طلاق کی مانعت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں بخوبی بیان کیا ہے۔ اسی یہی اس موضع پر ہم یہاں زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ استاد شبیدؑ کو اس کی بہترین یہ رحماء اعطافرمائے اور ان کے قاتل کو اور ان کے قتل کا سبب بننے والے کو عذاب دے۔

لہ سماں انوار جلد ۶ صفحہ ۳۳۵

۷۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کے نام سے اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا سید رفیق حسین صدر الفاضل نے فرمایا ہے جو دارالافتخار الاسلامی پاکستان نے شائع کیا ہے۔

لے وسائل ابواب مقدمات الطلاق باب ۱ خبرہ

۸۔ وسائل ابواب مقدمات الطلاق باب ۳ خبرہ

ضمیمه

گانا اور آلاتِ موسیقی

اس کی نہر میں بہت سی آیاتِ ولایات آئی ہیں

اس بارے میں دو موضوعات پر بحث ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو اس بارے میں اشتباه ہوتا ہے۔

— گانا — ①

— آلاتِ موسیقی کی آواز اور گانے بجانے کے وسائل — ②

غنا سے مراد وہ خاص آواز ہے جو انسان کے گلے اور حلقن سے نکلتی ہے جو اپنے اندر زیرِ و بم رکھتی ہے، ہیجان اور خوشی پیدا کرتی ہے اور ہم و عب کے وسائل اور عیش و رفق کی محفوظوں سے مناسبت رکھتی ہے۔ غنا کا اطلاق ہرچیزی اور دلکش آواز پر نہیں ہوتا اگرچہ اس میں مذکورہ بالا و صفات موجود نہ ہو۔

احکامِ اسلام کی رو سے غنا بکیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ گانا گانے والے اور اس کے سننے والے کے لیے شدید حرمت اور حلالنت آئی ہے۔ بلکہ گانا سکھانا بسیختا

اور سُننا اور اس کی اُجرت بینا حرام ہے۔

آلاتِ موسیقی : یہ وہ آلات و وسائل ہیں جو لہو و لعب، مجالسِ رقص اور کانے بجانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں ان آلاتِ موسیقی کی اقسام کم تھیں اسی لیے اکثر روایات میں ان آلات کو عود اور بنسری کے نام سے یاد کیا گیا ہے لیکن تمدن و ترقی کے اس زمانے میں آلاتِ موسیقی کی بہت سی اقسام ایجاد ہوئی ہیں۔

محضیر کہ ان آلات کا بنانا، فروخت کرنا اور خریدنا، بجانا اور سُننا، اسلام کی رو سے سب حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

البتہ موسیقی کا کام جو بعض کتابوں یا علماء کے فرمودات میں استعمال ہوتا ہے غیر عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ایک ایسی آواز پیدا کرنے کے جذنشاط انگریز اور احاسات کو حرکت میں لانے والی ہے۔ اس کے معنوں میں وہ انسانی آواز بھی شامل ہے جو غنا کی تعریف میں آتی ہے اور وہ آواز بھی جو آلاتِ موسیقی کے ذریعہ پیدا کی جاتی ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

«غنا ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے لیے
اللہ تعالیٰ نے عذابِ دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ پھر اپنے
نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوا الْحَدِيثَ
لِيُصِنَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ قَدْ

وَيَتَخَذَ هَا هُرُوا اُولَئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ مُّهِينٌ»۔

”لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہو و لعب کی باتیں چھیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو نادانستہ راؤ خدا سے مخرف کر دیں اور راہِ حق کو ٹھٹھا مذاق بنالیں ان کے لیے رسماں عنذاب ہے۔“ ۱۷

(سورہ فرقان ۳۲۔ آیت ۶)

(لہو والحدیث یعنی مشغول کر دینے والی باتوں سے مراد ہی غنا)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں کہ ”رحمٰن کے بندے وہ لوگ ہیں..... جو لغو اور ہمیوہ مخلوقوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔“ لغو سے مراد غنا لیا ہے۔ ۱۸

نیز اپنے نے فرمایا:

”وَإِذَا هَرَّوا بِاللُّغُومِ رَوَاهُمْ أَمَا مِنْ
لغو سے اللہ تعالیٰ کی مراد غنا ہے۔“ ۱۹

”گندگی یعنی بتوں سے اور لغبوتوں سے پرہیز کرنا واجب ہے۔“ ۲۰

۱۶۔ وسائل ابواب مایکتس بہ باب ۹۹ خبر ۶

۱۷۔ وسائل ابواب مایکتس بہ باب ۹۹ خبر ۳

۱۸۔ سورہ فرقان ۲۵۔ آیت ۲۔ روایت از وسائل ابواب مایکتس بہ باب ۹۹ خ ۱۹

۱۹۔ وسائل ابواب مایکتس بہ باب ۹۹ خ ۲

نیز آپ نے فرمایا:

”موم وہ کام کرے جن کا ان لئوں مشاغل سے
کوئی تعلق نہ ہو۔“

آنجناہ آپ کے اصحاب میں سے ایک نے کہا:

”میری جان آپ پر شمار ہو، ہمارے ہمسایوں کے
پاس گانے والی لوڈیاں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت
وہ گانے بجائے میں معروف ہوتی ہیں مجھے قضائے حاجت
کے لیے بیت الحلاں میں جانا ہوتا ہے اور میں ان کا گانائش
کے لیے وہاں کچھ زیادہ وقت لگا دیتا ہوں۔ حضرت
نے فرمایا: ”ایسا نہ کیا کرو۔“ اس شخص نے کہا: ”بخارا میں ان
کی محل میں شرکیک نہیں ہوتا۔ صرف کافیوں سے ستا ہوں۔“
آپ نے فرمایا: ”کیا تو نے یہ ارشاد خداوندی نہیں سنایا
کان اور آنکھ اور دل سب سے باز پر س ہوگی۔“

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”تمھارے بارے میں مجھے یہ خوف ہے کہ تم دین کو
ہلکا سمجھو گے۔ انصاف فروشی کرو گے (رشوت لوگے) قربادی
کے رشتے کو کاٹو گے اور قرآن کو بسری کی آواز کی طرح یعنی
غنا کے انداز میں پڑھو گے اور جو لوگ دنی انتبار سے کوئی

لے وسائل ابواب مالکتب ہے باب ۸۰ خ ۲

بڑی نہ رکھتے ہوں گے انھیں مقدم رکھو گے۔“ لے

”قیامت کی نشانیوں میں سے چند یہ ہیں: نماز کو
ضائع کرنا، شہوات کی پیروی اور ہوا و ہوس کی جانب
میلان، اس زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن
کو غیرِ خدا کے لیے استعمال کریں گے۔ خدا کی کتاب کو گانے
کے انداز میں پڑھیں گے، دین کا عالم دنیا کے لیے سیکھیں گے
حرام کی اولادی کثرت سے ہوں گی، آلاتِ موسیقی کو لوگ
پسند کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لوگ ناپسند
کریں گے۔ ان لوگوں کو آسانوں کے ملکوت میں ناپاک
اور پلید کہا جائے گا۔“ ۲

”میں تھیں ناچلنے، بنسری بجانے، طبل پیٹنے سے
منع کرتا ہوں اور روکتا ہوں۔“ ۳

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”لوگوں کے پانچ گروہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیض میت
ان پر نظر نہیں ڈالے گا۔“ ان گروہوں کو شمار کرتے ہوئے
آپ نے فرمایا: ”اور گانے والے۔“ ۴

۱۔ وسائل ابواب مالکتب ہے باب ۹۹ خ ۱۵

۲۔ وسائل ابواب مالکتب ہے باب ۹۹ خ ۲۲

۳۔ وسائل ابواب مالکتب ہے باب ۱۰۰ خ ۶

۴۔ مستدرک ابواب مالکتب ہے باب ۱۰۰ خ ۱۰

”غناہل میں نفاق کے بیچ کو اس طرح پروان چڑھاتی
ہے جیسے پانی لگھا سکو۔“ ۱۷

”میں اپنی امتن کو بنسری اور اس کے سجائے اور طبل
پینے سے منع کرتا ہوں۔“ ۱۸

”اللہ تعالیٰ نے دف اور طبل اور بنسری کو حرام
کیا ہے۔“ ۱۹

”دو بے ہودہ اور فاجرانہ صداؤں سے ہمیں منع کیا گیا
ہے ایک وہ صداجوں مصیبت کے وقت پہرے کو نوچنے اور
گریبان کو چاک کرنے کے ساتھ بلند کی جاتی ہے اور دوسرا
وہ صداجوں کی نعمت کے مٹنے کے وقت لہو ولب اور بنسری
کی آوازوں کے ساتھ بلند کی جاتی ہے۔ اور یہ بنسری یا شیطان
کی بنسریاں ہیں۔“ ۲۰

”ملائکہ ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں شراب
یادوں یا طنبور یا نرد ہوں، ان گھروں میں رہنے والوں
کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور ان میں سے برکت اٹھا
لی جاتی ہے۔“ ۲۱

۱۷۔ مستدرک ابواب مایکتسپ بہ باب ۹ خ ۱۶
۱۸۔ مستدرک ابواب مایکتسپ بہ باب ۹ خ ۱۱-۱
۱۹۔ مستدرک ابواب مایکتسپ بہ باب ۹ خ ۱۵-۱۲

”اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھجا کہ میں جہاں والوں کے
لیے رحمت بخوبی اور آلاتِ موسیقی کو نابود کر دوں، بخوبی اور
جالبیت کی رسم کو اکھار جینکوں، آلاتِ موسیقی کی خربذو
فرودخت حرام ہے اور ان کی تجارت اور کار و بازار جائز ہے۔“ ۲۱

”طنبوہ بجائے والا قیامت کے دن سیاہ صورت میں
اٹھایا جائے گا اور اس حال میں کہ آگ کا ایک طنبورہ اس
کے ساتھ میں ہو گا اور گانے والا رگلوکار (اینی قبرتے اندر حصہ)
گونگا اور سہرا اٹھایا جائے گا۔ زنا کار بھی اسی کیفیت کے
ساتھ اٹھایا جائے گا، دف بجائے والا بھی اس کیفیت کے
ساتھ اٹھے گا۔“ ۲۲

پیغمبرِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”جو شخص لہو (عناء) کوستا یہے اس کے کافوں میں
پچھا ہوا سب سے طلا جائے گا۔“ ۲۳

پیغمبرِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”دف بجانا، رقص کرنا، لہو ولب اور اس طرح کی
محفلوں میں شرکت اور ان کافوں کوستنا منوع ہے۔ دف
کو جائز نہیں کیا گیا مگر صرف شادیوں میں لڑکیوں بالیوں

۲۴۔ مستدرک ابواب مایکتسپ بہ باب ۹ خ ۱۶
۲۵۔ مستدرک ابواب مایکتسپ بہ باب ۹ خ ۱۷
۲۶۔ مستدرک ابواب مایکتسپ بہ باب ۹ خ ۱۵

کے لیے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ رُطکیوں اور عورتوں
کی مغلی میں مرد تدم ن رکھیں۔“ ۱۷

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد

”بُنِيَ اسْرَائِيلَ كَيْ أَيْكَ جَمَاعَتٍ پَرْ أَيْكَ رَاتِ عَذَابٍ
نَازَلَ هُوَا . لَوْگُ جَبْ صَحَّ كَيْ وَقْتٍ بَيْدَارٍ ہُوَئَ تَوَلَّخُونَ
نَےْ چَارِ فَسْمَ كَيْ لُوْگُونَ کَوَافِنَ دَرِيمَانَ مُوجَدَنَ پَيَا . ان میں سے
اَيْكَ گُروه طَبَّلَچِیوْنَ کَانَخَا اور دُوسَرَ الْكُلُوكَارُوْنَ کَاهَ ۲۸“ ۲۸

”قِيَامَتٍ اُولَانَ کَازَمَانَدَ باَنَکَلَ مُتَضَلَّ هَيْ . جَوَهَادَتَ
دَيْتَهِ هِیْ خَواهَ اَنَ سَهَادَتَ دِينَهِ کَيْ لَبَانَگِیَا ہُوَ یَا
نَہِیْ . وَهَ قَوْمٌ لُوطٌ کَانَلَ اَنْجَامَ دَيْتَهِ هِیْ ، وَهَ دَفَ اَوْ
مُوسَيِقَیَ کَيْ تَحَامَ اَلاَتَ اَسْتَهَالَ کَرَتَهِ هِیْ .“ ۲۹

آجَنَابَ نَےْ اَيْكَ شَخْصَ کَيْ بَارَےِ مِنْ سَنَارَهِ طَبَّلَچِیَہِ ہُجَاتَهِ .
آیَتَ نَےْ اَسَےْ منْ کیا اور اسَ کَيْ طَبَّلَچِیَہِ کَوَ توَرَدَیَا اور اسَےْ تَوَبَ کَرَنَےِ کَیْ ہَدَایتِ فَرَمَانَیَہِ
اسَ شَخْصَ نَےْ تَوَبَ کَی . آیَتَ نَےْ فَرمَایَا :

”کَيْ اَنْجَحَهِ مَعْلُومٌ هَيْ كَيْ جَبْ طَبَّلَچِیَہِ سَجَایَا جَاتَهِ هَيْ تَوَطَّبُوْرٌ

۱۷ مُسْتَدِرُكُ الْبَابُ مَا يَكْتُبُ بِهِ بَابُ ۴۷ خ ۳

۱۸ مُسْتَدِرُكُ الْبَابُ مَا يَكْتُبُ بِهِ بَابُ ۴۸ خ ۱۲

۱۹ مُسْتَدِرُكُ الْبَابُ مَا يَكْتُبُ بِهِ بَابُ ۴۹ خ ۲

کیا کہتا ہے؟“
اس شخص نے کہا:

”رسولِ خدا صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے وصی زیادہ
بہتر جانتے ہیں۔“

آجَنَابَ نَےْ فَرمَایَا :

”طَبَّلَچِیَہِ کَہتا ہے ، تَوَبَتَ جَلَدِ شَمَانَ ہُوَگَا . تَوَبَتَ
جلَدِ شَمَانَ ہُوَگَا . اور اسَے میرے بِجاَنَے دَلَے ! تَوَبَتَ جَلَدَ
جَهَنَمَ مِنْ دَاخِلٍ ہُوَگَا ۳۰“

(یعنی وہ یہ بات زبانِ حال سے کے گا زبانِ مآل سے نہیں)

”مُوْمَنٌ ہُوَ وَلَعْبٌ کَوْ پِسْنَدَنَہیںَ کَرَنَا . وَهَ زَنْدَگَیَ کَے
اَهْمَ کَامُوْنَ مِنْ مَصْرُوفٍ رَهَتَهِ .“ ۳۱

”جو شخص کھیل کو د کا شفیقت اور ہُو وَلَعْبٌ اور گانے
بِجاَنَے کا شوقین ہُوتا ہے اس کی عَقْلَ وَ دَانَشَ ضَعْبَتَ
ہُوتی ہے .“ ۳۲

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد

”اللَّهُ تَعَالَى اَسَّ قَوْمَ کَوْ جَسَ کَسَازُوْنَ اور نَفِيرُوْنَ

۱۷ مُسْتَدِرُكُ الْبَابُ مَا يَكْتُبُ بِهِ بَابُ ۴۷ خ ۲۰
۱۸ مُسْتَدِرُكُ الْبَابُ مَا يَكْتُبُ بِهِ بَابُ ۴۹ خ ۲۱

کی آواز بلند ہوتی ہے، پاکیزگی اور تقویٰ سے بہرہ مند
نہیں فرماتا۔“ ۱۷

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد

”غنا دلوں میں نفاق کو اسی طرح پروان چڑھاتا ہے
جس طرح کھجور کا درخت اپنے شگونوں کو اگاتا ہے ۱۸
اور یہی بات آلات موسيقی کے استعمال کرنے اور بے ہودہ بالوں
کے سننے پر صادق آتی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشادات

”جس گھر میں کانا بجانا ہوتا ہے، وہ مصائب سے محفوظ
نہیں رہتا اور اس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی اور اس گھر میں
ملانکہ داخل نہیں ہوتے۔“ ۱۹

”غنا کی محفل ایک ایسی مجلس ہے کہ جس میں شرکت کرنے
والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا۔“ ۲۰

”غنا نفاق کا آشیان ہے۔“ ۲۱

۱۷. دسائل ابواب مایکتس بہ باب ۱۰۰ خ ۶

۱۸. مستدرک ابواب مایکتس بہ باب ۸، خ ۵

۱۹. دائل ابواب مایکتس بہ باب ۹۹ خبر ۱۰ - ۱۲ - ۱

غنا کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا:
”اُن گھروں میں جن کے ربینے والوں سے اللہ تعالیٰ
بیزار ہے اقدم ن رکھو۔“ ۲۲

”بذریں آوازوں میں سے ایک آواز غنا ہے۔“ ۲۳
”غنا، نفاق کا ذریعہ ہے اور اس کے پیچے افلاس
آتا ہے۔“ ۲۴

ایک شخص جس کا نام عمر و نخا، اس کا تعلق غنا اور یہود لعب کے آلات
سے تھا اس نے کہا:

”ایک روز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی
خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے لپٹے اصحاب کی طرف رُخ کر
کے فرمایا: غنا سے پر ہیز کرو، غنا سے گریز کرو، بیہودہ بالوں
سے احتراز کرو۔ آپ بار بار یہی فرماتے رہے۔ میں تجویز کا
روئے سخن میری طرف ہے۔ میری یہ حالت خنی کہ مجلس مجھے
پر تنگ ہونے لگی اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ درود یا وار مجھے
جکڑ رہے ہیں۔“ ۲۵

”جس شخص کے گھر میں چالیس دن تک خود بختار ہے

۲۳، ۲۴، ۲۵. دسائل ابواب مایکتس بہ باب ۹۹ خبر ۱۰ - ۱۲ - ۱

۲۶. دائل ابواب مایکتس بہ باب ۹۹ خبر ۱۰ - ۱۲ - ۱

اور وہاں اجنبی لوگ آتے رہیں تو اس شخص میں غیرت باکل
باتی نہیں رہتے کی اور وہ اس حد تک بے غیرت ہو جائے گا
کہ اگر لوگ اس کے گھر کی خواہین سے چھپڑ چھاڑ کرنے لگیں گے
تو اس پر بھی اس کی رگ غیرت نہیں بھڑکے گی۔“ ۳

”جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی موت
پر الملیک اور قابیل نے جشنِ مسرت منایا اور زمین پر دو ڈن
نے مل کر آلاتِ موسیقی بنائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی خوشی کا
اخہار کریں۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی آلاتِ موسیقی ہیں کہ
جن سے لوگ لذتِ اندوز ہوتے ہیں ان کا آغازِ الملیک اور
قابل کے اسی جشن سے ہوا ہے۔“ ۴

”جب کسی شخص کو اسہد تعالیٰ کوئی لغتِ عطا فرماتا ہے
اور وہ (بجائے شکر کے) گانے بجائے کاہتمام کرتا ہے وہ
در اصلِ خدا کی ناشکری کرتا ہے۔“ ۵

پوچھا گیا کہ پست و ذلیل لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا:
”جو شراب پیتے ہیں اور طنبورہ بجائے ہیں۔“ ۶

”گانگانے والی عورت ملعون ہے۔ اور وہ شخص بھی

لے وسائلِ ابوابِ مالکتبہ بہ باب ۱۰۰ خبر
ہے، ملکے، ملکے وسائلِ ابوابِ مالکتبہ بہ باب ۱۰۰ خبر ۱۱۰-۷

ملعون ہے جو اس کی کمائی کرتا ہے۔“ ۷

”غنا کا خریدنا اور فروخت کرنا حلال نہیں ہے۔ اس
کا سُننا نفاق اور اس کا یاد کرنا کفر ہے۔“ ۸

آپ نے اپنے ایک قربی عزیز کی احوال پر کی کی اس نے کہا:
”میری جان آپ پر نشاز ہو، گر شتر رات میری لپنے
ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے ایک بیسے مکان میں
لے گیا جہاں اس کی ایک کنیز گاتی بجا تھی۔ میں رات کے تک
اس کے پاس رہا۔ وہ برابر گاتی بجا تھی رہی۔“
حضرت نے فرمایا:

”کیا تجھے یہ خوف نہ ہو اکر کیسی اسی حال میں تجھے موت
نہ آجائے؟ غنا ان بدترین آوازوں میں سے ہے جنہیں اللہ
تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ نفاق اور افلاس کا باعث ہے۔“ ۹

آپ نے اس شخص کے بارے میں جو شکارِ کھینے کے لیے جانا ہے فرمایا:
”مومن کو اس قدر کام و ریشیں ہیں کہ اسے اس مشنے کے
لیے فرصت نہیں مل سکتی۔ ان لھو لعب کے کجائے مومن کا
کام آخرت کی طلب ہے۔“
آخر میں آپ نے فرمایا: ”مومن کے لیے دوسرے بیت سے

۷۔ وسائلِ ابوابِ مالکتبہ بہ باب ۱۵ خبر ۷
۸۔ مستدرک ابوابِ مالکتبہ بہ باب ۱۷ خبر ۱
۹۔ مستدرک ابوابِ مالکتبہ بہ باب ۱۸ خبر ۷

کام کرنے کے ہیں۔ مومن کو ان بیبودہ کاموں سے کیا سرکار؟
یہ بیبودہ کام دل میں سختی اور نفاق پیدا کرتے ہیں۔ یہ لئے

حضرت امام موسیٰ ابن حبیر علیہ السلام کے ارشادات

حضرت امام موسیٰ ابن حبیر علیہ السلام نے فرمایا:
”جو شخص خود کو غنا سے دور اور محفوظ رکھے گا اس کے
لیے جنت میں ایک درخت مخصوص ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہواں
کو حکم دے گا کہ اسے حرکت میں لایں۔ درخت کے حرکت
میں آنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہو گی کہ کبھی کسی نے زُسُنی
ہو گی اور جو شخص اس دنیا میں خود کو غنا سے محفوظ نہیں
رکھے گا وہ اس آواز کو نہیں سن سکے گا۔“ ۲

(اب) بیشت کے مختلف طبقے اور درجے ہیں مکن ہے جو شخص دنیا میں غنا
کا مرتب ہوا ہر اگرچہ کس نے توبہ کی ہوا اور داخل بیشت ہوا ہواں نعمت سے محروم
ہی رہے)

ابراہیم کہتے ہیں:
”اسحاق بن عمار کے پاس گانے والی کنیزوں تھیں، موت
کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ ان کنیزوں کو فروخت کر
دیا جائے اور اس سے ملنے والی رقم حضرت موسیٰ بن حبیر۔“ ۳

۱۔ دسائل ابواب مایکتسپ بہ باب ۱۶ خ ۵
۲۔ دسائل ابواب مایکتسپ بہ باب ۹۹ خ ۱۳
۳۔ مستدرک ابواب مایکتسپ بہ باب ۱۳ خ ۱۹ خبر ۲

کو پیش کی جائے۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کنیزوں
کو تین لاکھ درہم میں فروخت کر دیا اور رقم آنحضرت کی خدمت
میں پیش کر دی اور میں نے کہا آپ کے ایک دوست نے
مجھے یہ وصیت کی سخنی اور ارب میں یہ ۳ لاکھ درہم کنیزوں کو
فروخت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے
فرمایا: ”مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں، یہ حرام ہیں، ان
کنیزوں کو سو سیقی کی تعلیم دنیا اور ان کا کام اسننا نفاق کا
ذریعہ ہے اور ان کا پیسہ حرام ہے۔“ ۱

یوں کہتے ہیں:

”میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے غنا کے
بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا: ”ایک شخص امام محمد باقر
علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے غنا کے
بارے میں پوچھا۔ آنحضرت نے اس شخص سے دریافت فرمایا
جس وقت اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو الگ کر دے گا،
غنا کس طرف آئے گا؟“ اس شخص نے کہا: ”باطل کی طرف؛
حضرت نے فرمایا: ”تو نے خود ہی اس بارے میں جو حکم ہے تباہیا،“ ۲
”گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے۔“ ۳
”تار کی آواز سننا گناہ کہیو ہے۔“ ۴

قمار

یہ شیطانی کام قرآن و حدیث کی رو ساخت منع ہے

لعنت میں قمار کے معنی جیتنے اور بارنے کے ہیں۔ یعنی ہر وہ کھیل جو شرط کے ساتھ کھیلا جائے اور جیتنے والا ہارنے والے سے کوئی چیز وصول کرے۔

اس بارے میں مندرجہ ذیل چند باتوں اور بعض حکم شرعی پر
نظر ڈالیں :

(۱) — ایسا کھیل جو آلات کے ذریعے کھیلا جائے اور یہ آلات جیتنے بارنے اور میسوں کی شرط لگانے کے لیے تیار کیے جائیں۔

(۲) — وہ کھیل جو آلات اور وسائل کے ذریعے کھیلا جائے بغیر اس کے رجیتنے مارنے پر کوئی چیز وصول کی جائے۔

(۳) — ایسے آلات و وسائل کے ساتھ کھیننا جو جیتنے مارنے کے مقصد سے نہ بناۓ گئے ہوں۔ جیسے گیند اور انگشتی وغیرہ اور اس کھیل پر کوئی چیز وصول کرنا۔

(۴) — مندرجہ بالا آلات و وسائل کے ساتھ کھیننا کوئی چیز وصول کیے بغیر۔

اس طرح موضوع کے اعتبار سے انسانی عمل کی چار قسمیں ہیں۔
لیکن حکم کے اعتبار سے پہلی اور تیسرا فرم کا عمل طرفین کے لیے گناہ و

معصیت اور جو مال یا جائے وہ حرام ہے اور بلا تردید یہ جو اور جب تناہارنا ہے اور دوسرا فرم کے بارے میں احتیاط اور تامل سے کام لینا چاہیے۔ اور چوتھی فرم حلال ہے۔

ذیل میں ہم جو روایات درج کر رہے ہیں ان میں سے بعض اس عمل کی حرمت اور جیتنے اور بارنے والے کی حرکات کے بارے میں ہیں اور بعض دوسرا روایات اس مال کی حرمت کے بارے میں ہیں جو وصول کیا جاتا ہے۔ بعض روایات قمار کے بارے میں اور بعض کا تعلق ان آلات و وسائل سے ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں:

شیطان، شراب اور قمار کے ذریعے متحارے درمیان دشمنی اور کینیہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور عجیب خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھتا ہے ران تمام مفاسد کے پیش نظر، اس کام سے دور رہو۔

ارشاد رب العزت ہے:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمُبَيْسُرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ خَمْلِ الشَّيْطَنِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

”شراب، قمار، انساب (ربتوں) اور تیروں کے ذریعے فرنگ کا ناما گندگی اور شیطانی کام ہے۔ ان سے بچو۔ اس طرح تو نفع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔“ ۷۰

امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا :
 " قمار سے مراد نہ دہنے۔ شترنج اور جیتنے ہارنے
 کے تمام کھیل اور "انصاب" وہ بُت ہیں جن کی مشرکین
 پرستش کرتے تھے۔ ان کی حسرید و فروخت اور ان سے
 نفع حاصل کرنا حرام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت
 ممنوع ہے۔ یہ کام شیطانی کام ہیں اور گندگی ہیں، اللہ
 تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو تبوں کا ساختی قرار دیا ہے۔ " ۱۷

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت "گندگی سے یعنی تبوں اور
 شیطانی گفتگو سے پرہیز کرو" تک تفسیر کرتے ہوئے فرمایا :
 " تبوں کی گندگی، شترنج ہے (یعنی شترنج بھی
 گندے تبوں کی طرح ہے) اور شیطانی گفتگو کا ناجانا
 ہے۔ " ۱۸

اب رایم نے حضرت امام علی نقی عنیۃ السدار کو لکھا :
 " آنچہ اب اگر مناسب صحیح تو اس آیت کی تفسیر
 بیان فرمائیں ۔ تو یہ تمرست شراب اور قمار کے بارے
 ہیں پرچھتے ہیں، بعد و ان ہیں نو گوں کے یہ منافع ہیں
 لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے ۔ یہ آپ

کے قربان ا بتائیے، قمار کیا ہے؟"
 حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا : "ہر جیت ہار والا کھیل
 قمار ہے اور ہر مست کرنے والی چیز حرام ہے۔ " ۱۹

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 " شترنج کھیلنے والا ملعون ہے اور جو شخص اس کھیل
 کا تماشہ کرے وہ اس شخص کی مانند ہے جو سور کا گوشت
 کھاتا ہے۔ " ۲۰

" جو شخص نر کھیلتا ہے وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ " ۲۱

" یہ ہر جیت کے کھیل جو مختارے درمیان رائج ہیں
 ان سے پرہیز کرو گیونکہ یہ اہل محض کا قمار ہیں۔ " ۲۲

فضل کہتے ہیں ہیں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے جوئے میں استعمال
 ہونے والے ان آلات اور وسائل کے بارے میں سوال کیا جن کا استعمال عام ہے
 آپ نے فرمایا :

" جس وقت اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو جدا کرے گا
 تو یہ کھیل کس طرف ڈالے جائیں گے؟" میں نے کہا: باطل

۱۷۔ دسائل ابوب ماکتبہ باب ۱۰۲ خ ۱۱

۱۸۔ مستدرک ابوب ماکتبہ باب ۸۲ خبرا

۱۹۔ مستدرک ابوب ماکتبہ باب ۸۳ خبرا

۲۰۔ دسائل ابوب ماکتبہ باب ۱۰۲ خ ۱۲

۲۱۔ دسائل ابوب ماکتبہ باب ۱۰۲ خ ۱

کی جانب۔ آپ نے فرمایا: "پھر مجھے باطل سے کیا سروکار؟" ۱۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
"ماہ مبارک رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو آگ سے بچات عطا فرماتا ہے لیکن شترنج بازاں عنایت ربائی سے محروم رہتا ہے۔" ۲۔

آن بخاٹ سے لوگوں نے شترنج کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا:
"مجوسیوں کے اس طریقے کو انہی کے لیے چھوڑ دو،
اس پر خدا کی لعنت ہو۔" ۳۔

ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا:
"پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شترنج اور زد کھیلنے سے منع فرمایا ہے۔" ۴۔

"عبد الواحد کہتے ہیں۔ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: کیا شترنج جائز ہے؟ آپ نے فرمایا:
"مومن کھلیوں کی طرف رُخ نہیں کرتا۔" اور آپ

لئے مستدرک ابواب مالکتبہ باب ۱۰۳ خ ۲
لئے وسائل ابواب مالکتبہ باب ۱۰۲ خ ۲
تھے، تھے وسائل ابواب مالکتبہ باب ۱۰۲ خ ۴ - ۷

نے فرمایا: شترنج ایک ناجائز اور فضول کھیل ہے۔" ۱۔

ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا:
"شترنج قمار ہے اور زرد بھی قمار ہے۔" ۲۔

آپ نے مزید فرمایا:
"شترنج کی فردخت حرام ہے، اس کی کمائی کھانا گناہ ہے اور اس کا فرماں کرنا ناجائز ہے جس شخص کے ہاتھ شترنج میں مصروف ہوں اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اپنے ہاتھ سوتور کے گوشت میں ڈال رکھے ہوں اس کھیل کو دیکھنے والا، کھیلنے والا اور کھلینے والاوں کو سلام کرنے والا سب برابر ہیں۔ شترنج کھلینے والاوں کی محفل میں بیٹھنا گویا آگ میں بیٹھنا ہے۔ اس کھیل میں گزرنے والے لمحات قیامت کے دن حضرت کا سبب نہیں گے۔ فریب خودہ شترنج باز کی صحبت سے پر بیز کرو۔ کیونکہ شترنج کی محفل میں شرکیک ہونے والاوں پر عذاب خدا نازل ہوتا ہے۔ ان پر کسی بھی وقت عذاب نازل ہونے کا خوف ہے۔ اگر عذاب آیا تو مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیگا۔" ۳۔

۱۔ وسائل ابواب مالکتبہ باب ۱۰۲ خ ۱۱

۲۔ وسائل ابواب مالکتبہ باب ۱۰۲ خ ۱۲

۳۔ وسائل ابواب مالکتبہ باب ۱۰۲ خ ۳

اب بصرہ میں سے ایک شخص امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی:

”میری جان آپ پر نثار ہو، میں شترنج بازوں کی مغلی میں بیٹھا کرتا ہوں جب کہ خود اس کھیل میں شرکیب نہیں ہو تو اصرف میں تماشہ کرتا ہوں۔“

حضرتؐ نے فرمایا:

”تجھے ایسی مجلس سے کیا سروکار جس میں شرکت کرنے والوں پر نظر مذہنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے نہیں فرماتا۔“

امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا:

”جتنے اور ہارنے کا ہر زرعیہ قمار ہے۔“

”یا سر خارم کہتے ہیں، میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا: جو اکیا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا:

”ہر وہ کھیل جس میں شرط باندھ کر کوئی چیز لینے ہیں،“

ایک دوسری روایت میں آپؐ نے فرمایا:

”الگشیری بازی اور ہارت جتنے والے ہر کھیل سے پر ہیز کرو، حتیٰ کہ اخروٹ بادام اور کپوں کے ساتھ جو بھیں کے کھیل ہیں جو کھیلنے سے پر ہیز کرو۔“

لہ دسائل ابوب ماکتبہ باب ۱۰۳ خ ۲
تمہارے دسائل ابوب ماکتبہ باب ۱۰۳ خ ۱۰۱
لہ ستدرک

شراب

اسلام کے نقطہ نظر سے ہر ملت کر دینے والی چیز حرام ہے خواہ وہ چیز انگور اور کشمش سے بنائی گئی ہو یا کسی اور شے سے۔ خواہ وہ سیال ہو یا جامد یا ان دونو طرح کے علاوہ کسی اور نوعیت کی۔

روایات کے مطابق نہ لانے والی چیزوں کی حرمت کا حکم صرف اسلامی شریعت ہی کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتا بلکہ تمام شریعتوں اور مذاہب میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے لیکن حرمت کا یہ حکم اسلام کے قبل اور بعد کے دور میں کلی طور پر متروک و منسوخ ہو چکا تھا اسی طرح جس طرح کہ مرور زمانہ کے ساتھ دوسرے قوانین متروک ہو کر طاقت نیاں کی زمینت بن چکے تھے۔ اگر ہم دنیا کے تمام معاشروں کے بارے میں ایسا ذکر کہ سکیں تو کہ اسلام کی آمد کے وقت جو گمراہ معاشرہ موجود تھا اس کے بارے میں ضرور یہ کہہ سکتے ہیں۔

اسلام نے اپنے ظہور کے وقت ہی سے نہ آور چیزوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا تھا اور تدریج چودہ سال کے اندر ان کی حرمت و مخالفت کو حصی اور حقیقی نباچکا تھا۔

البته ہیاں ہم متُّرَآن مجید کی نصوص کی روشنی میں جس چیز کا ذکر کئے ہیں وہ حمر کی حرمت کا حکم ہے جو انگور کی مختلف اقسام سے بنائی جانے والی شراب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ باقی مسکرات (نہش اور چیزوں) کی حرمت کو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں واضح نہیں کیا گیا۔ بلکہ بعض روایات

میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی مسکرات کے حکم کو خود پہنچہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابید پر چھپڑ دیا کہ وہ اس معاملتے متعلق مصالحتوں اور مضرفتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کریں۔ اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مسکرات کو بھی خمر کی طرح حرام قرار دے دیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رضامندی ظاہر فرمادی، چنانچہ اس کی شایدیں فقر کے بعض مقامات پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

شراب کی نمذمت میں بیت سی آیات درویا ات وارد ہوئی ہیں۔ ہم ذیل میں ان میں سے چند کا تذکرہ کریں گے:

ارشادِ رب العزت ہے

”تم سے لوگ شراب اور قمار کے بارے میں پوچھتے ہیں
کہہ دو ان میں بڑا گناہ اور بوجوں کے لیے منافع ہیں اور
ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔“ ۱۷

”شراب، قمار، بُت اور قرعہ کے لیے تیرنکانا،
گندہ اور شیطانی کام ہے۔ اس سے دور رہ شاید کہ
نمٹھیں فلاح نصیب ہو۔“ ۱۸

”شیطان شراب اور قمار کے ذریعہ تھمارے
درمیان دشمنی اور کینہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور نمٹھیں

خدا کی یاد اور نہماز سے باز رکھنا چاہتا ہے۔ کیا اس سب کے
باوجود تم ان کاموں سے پر ہیز نہیں کرو گے؟“ ۱۹

”اُہم و میرے پروردگار نے کھلے اور چھپے بُرے کاموں
اور رکناہ اور ناخن تجاوز کو حرام کیا ہے۔“ ۲۰

امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا:

”اس آیت میں اثم سے مراد خصوصاً شراب ہے۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت: ”اللہ تعالیٰ نے نمٹھیں جو
لغت عطا کی ہے اور سخوارے ساتھ جو پیان باندھا ہے اسے یاد کرو، اس لیے کہ تم نے
کہا سخا ہم نے سنتا اور اطاعت کی“ کی تفسیر میں فرمایا:

”پیان وہی ہے جس کی تفضیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آہم و سلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت الوداع کے موقع پر
امامت کے گوشش گوار فرمائی۔ تمام مسکرات کی حرمت، و صنو
کا طریقہ جس طرح کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور امیر المؤمنین
علیہ السلام کی امامت“ ۲۱

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات

”جو شخص مست ہو جانے کی حد تک شراب پیتا ہے

۱۷ سورہ مائدہ ۵ آیت ۹۱

۱۸ سورہ اعراف، آیت ۳۳

۱۹ مستدرک ابواب الاستہرات الحرمۃ باب ۱۱ خ ۱۳

۲۰ سورہ بقرہ ۲ آیت ۲۱۹

۲۱ سورہ مائدہ ۵ آیت ۹۰

چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔“ اے

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
“اے علی! اگر کسی شخص نے خواہ غیر خدا کے یہ شراب (زندگی بھر) ترک کر کر کی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی سرستہ شرابوں سے سیراب کرے گا۔“ اے

“پہلی حیرز جو خداوند حلیل نے مجھ پر حرام کی وہ بُت پرستی
شراب خوری اور لوگوں کے ساتھ حجّطا ہے۔“ اے

“شراب خور کے ہم نشین نہ بنو، اسے بیٹی نہ دو، اس کی لڑکی نہ مانگو، اس کی عیادت نہ کرو اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو۔“ اے

“تین آدمیوں کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں،
شراب خور، جادوگ اور وہ جو قرابت داروں کے رشتے کو کاٹ دے۔“ اے

۱۔ وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۹ خ ۵

۲۔ وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۹ خ ۱۸

۳۔ وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۹ خ ۲۰

۴۔ وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۹ فی تعلیقۃ علی الخبر ۲۰

۵۔ وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۹ خبر ۲۱

”میرے خلنے قسم کھائی ہے کہ دنیا میں اس کا جو بندہ شراب پیئے گا یا کسی بچے یا غلام کو پلاۓ گا، قیامت کے دن اتنی ہی مقدار میں کھوتا ہوا پانی اس کے حق میں ڈالا جائے گا خواہ بخشش پانے والا ہو یا عذاب پانے والا۔“ اے

”اگر کوئی شخص اس کے باوجود دک کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو میری زبان سے حرام کیا ہے اسے پیے گا وہ اس کا اہل نہ ہو گا کہ اس کا شادی کا پیغام قبول کیا جائے یا اسے شاث بنایا جائے یا اس کی بات کی نقدیت کی جائے یا اس کے پاس امامت رکھوائی جائے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے شرابی ہوئے کا عالم رکھنے کے باوجود اس کے پاس امامت رکھوائے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کا ذمہ دار نہ ہو گا۔ اگر اس کا مال تلف ہو جائے تو اسے اس مال کے بدے کچھ نہیں ملے گا۔“ اے

”شراب نوشوں کی عیادت کو ز جاؤ۔ ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو، ان کی گواہی قبول نہ کرو، اگر وہ لڑکی مانگیں تو ان کا رکرو، امامت ان کے ہاتھوں میں نہ دو۔“ اے

”شراب تمام گناہوں کا سبب ہے۔“ اے

۱۔ وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۹ خ ۱۰

۲۔ ائمہ وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۹ خ ۲۱

۳۔ وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۹ خ ۱۲

”تمام نہ لانے والی چیز یہ حرام ہیں، بروہ چیز جو مست کر دیتی ہو اس شراب کے حکم میں ہے۔“ ۳۷

”جو شخص نماز کو معمولی چیز سمجھے وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر کے کنارے میرے ساتھ نہیں ہو گا۔ نہیں بخدا، جو شخص شراب پیتا ہے میری شفاعت اسے لفیض نہیں ہوگی، خدا کی قسم حوض کوثر کے کنارے وہ میرے حضور نہیں آسکے گا۔“ ۳۸

ایک صحابی سے آپ نے فرمایا:

”جس مسلمان سے بھی بختاری ملاقات ہو اس سے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا، نبیند ہر مسلمان پر حرام ہے، نبیند شراب ہی ہے اور ہر نشر لانے والی چیز مسلمانوں پر حرام ہے۔“ ۳۹

”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ چار قسم کے آدمیوں پر اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جس کو اس کے ماں باپ نے عاق کیا ہو، احسان جتنا نہ والا، قضا و قدر کو جعلنا نے والا اور شراب پینے والا۔“ ۴۰

”شراب خور کو کوڑے لگاؤ، اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اسے بچر کوڑے لگاؤ اور اگر چونھی بار بھی وہ شراب پیے تو اسے بلک کر دو۔“ ۱۶

شام کے لوگوں سے آپ نے فرمایا:

”اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ سبوث فرمایا، جس شخص کو قرآن کی ایک آیت بھی یاد ہو اور اس کے ساتھ شراب پیے تو قیامت کے دن اس آیت کا ہر جو خدا کے سامنے اس شخص سے جھگڑے گا اور جس سے قرآن جھگڑے اللہ تعالیٰ اس کا دشن ہو گا اور جس شخص کا دشن ہو اس کا ٹھکا ز جہنم ہے۔“ ۴۱

”شراب خور منتفع گندھاک کی طرح ہے۔ ہوشیار رہو کہیں اس کی عفونت سے تم آؤ وہ نہ ہو جاؤ۔“ ۴۲

”شراب خور کے ساتھ دوستی نہ کرو کیونکہ یہ پیمانا کا سبب ہے۔“ ۴۳

”جو شخص نہ کی حالت میں مرتا ہے اور مستی کی حالت

- ۱۷۔ دسائل ابوبالاشترۃ الحجرۃ باب ۱ خ ۵
- ۱۸۔ مستدرک ابوبالاشترۃ الحجرۃ باب ۵ خ ۱۲
- ۱۹۔ مستدرک ابوبالاشترۃ الحجرۃ باب ۵ خ ۱۷
- ۲۰۔ مستدرک ابوبالاشترۃ الحجرۃ باب ۵ خ ۵

- ۱۷۔ وسائل ابوبالاشترۃ الحجرۃ باب ۱۵ خ ۲
- ۱۸۔ وسائل ابوبالاشترۃ الحجرۃ باب ۱۵ خ ۱۱
- ۱۹۔ وسائل ابوبالاشترۃ الحجرۃ باب ۱۵ خ ۳۰
- ۲۰۔ وسائل ابوبالاشترۃ الحجرۃ باب ۱۶ خ ۲

میں فرشتہ موت سے مٹا ہے اور سقی کی حالت میں قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اسی سقی کی حالت میں اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوچھا جائے گا۔ ترکس حال میں ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کیا میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا؟ اسے سکران کی طرف رجاؤ۔ اسے دوزخ میں آگ کے ایک پہار پر لے جائیں گے۔^۱

”شراب تمام گناہوں کا سحر شپہ، ناپاکیوں کی ماں اور ہر شر کی کلید ہے۔“^۲

”اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب کو حلال قرار دیں گے اور اس کا نام بنیذ رکھیں گے۔ ایسا کرنے والی قوم پر خدا کی اوفرشتیوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت، میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے۔“^۳

”اللہ تعالیٰ ہرگز شراب اور ایمان کو ایک دل میں جمع ہونے نہیں دیتا۔“^۴

”ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت ایک چیز بنگ (بنگ) کے نام سے استعمال کرے گی۔ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں اور وہ لوگ مجھ سے یا“ (بنگ ایک سفوف ہے جو ایک متم کے پتوں اور بونڈیوں کو کوٹ کر بنتے ہیں اور مختلف صورتوں میں اسے استعمال کرتے ہیں یعنی ظاہر ہے اس حکم میں تمام جامد مسکرات شامل ہیں۔ جیسے ہیر و سن وغیرہ)۔

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات

”جو شخص کسی تیز و شور نہ رکھنے والے یا پچ کو نشہ آور مشروب پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے آبک سیاں میں محبوس کرے گا تاکہ اسے اس گناہ کا خوب بدلتے ہے“^۵
”آنجنباٹ سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ شراب کو زنا اور سرقے سے بدل سکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:
”ہاں! اس یے کزانی ممکن ہے اسی جرم تک محدود رہے، لیکن شرائی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے اور نماز کو فناٹ کرتا ہے۔“^۶

۱۔ مسند رک ابواب الاشربة المحرة باب ۷ خ ۵

۲۔ مسند رک ابواب الاشربة المحرة باب ۱۰ خ ۶

۳۔ مسند رک ابواب الاشربة المحرة باب ۱۲ خ ۸

۴۔ مسند رک ابواب الاشربة المحرة باب ۷ خ ۲

۵۔ مسند رک ابواب الاشربة المحرة باب ۸ خ ۵

۶۔ مسند رک ابواب الاشربة المحرة باب ۹ خ ۱

۷۔ مسند رک ابواب الاشربة المحرة باب ۹ خ ۶

”جو شخص شراب پینے والے سے ہاتھ ملاتا ہے اس کے
نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے“ اے (لینی شرخوردی)
کے عمل کی تائید اور حمایت کرنے کی ناپر

”مست کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک ہے“^۱

”جو شخص شراب کو حلال سمجھتا ہے اسے روت نہ بناو
اس شخص کا گناہ جو شراب کو حرام سمجھتا ہے اور پیتا ہے پہکا ہے
اس شخص کے گناہ سے جو شراب کو سمجھتا تو حلال ہے لیکن تیناہیں“^۲

حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کا ارشاد

معاوية کے نام ایک تویخ آمیز خط میں آئی ہے نے لکھا:
”آخر کار تم نے شرابی اور سگ بازی کا مشتمل رکھنے
والے فرزند کے ہاتھ میں مسلمانوں کی باغ ڈور دے دی ہے
تم نے اپنی امانت میں خیانت کی ہے، ملت کو بدجنت بنایا،
دین خدا کے بارے میں خیز خواہی اور نصیحت کا حق ادا نہیں
کیا۔ تم آخر کس طرح اپنے شرابی بیٹھے کوامت محمد پر مسلط
کر سکتے ہو؟ شرابی، منافع اور گناہ گار اور بدکردار ہے وہ

۱۔ مستدرک ابواب الاشربة الحرمۃ باب ۷ خ ۸

۲۔ مستدرک ابواب الاشربة الحرمۃ باب ۸ خ ۱

۳۔ مستدرک ابواب الاشربة الحرمۃ باب ۹ خ ۲

ایک درستم کی امانت کا بھی اعتبار نہیں رکھتا۔ آخر ملت کا اخْتِیَّا
کس طرح اس کے بانخنوں میں دیا جا سکتا ہے، بہت جلد اس
وقت جب تو برو استغفار کا دروازہ بند ہو جائے گا اور نامہ
اعمال سر بھر کر دیئے جائیں گے تھیں کیف کردار کی طرف چیخ کر
لایا جائے گا اور تم وہاں اپنے ناپسندیدہ کاموں کو موجود
پاؤ گے۔“^۱

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد

امام علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوئے قبلہ قریش کے ایک گروہ
نے کہا : یہ امام اہل عراق میں سے ہیں۔ ایک شخص نے کہا :

”اچھا ان سے چند مسائل پوچھنے ہیں۔“

اس غرض سے انخنوں نے ایک نوجوان کو سمجھا، اس نے سوال کیا :

”سب سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا :

”شراب فوشی!“

نوجوان واپس آیا اور اس نے اپنا سوال اور اس کا جواب ان لوگوں
کو بتایا لوگوں نے کہا

”واپس جاؤ اور پھر بھی سوال کرو۔“

جو ان آیا اور اس نے وہی سوال دہرا�ا۔ آپ نے فرمایا :

۱۔ مستدرک ابواب الاشربة الحرمۃ باب ۵ خبر

”کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا ”شراب“

لوگوں نے اسے تیسری بار بھیجا۔ اسی سوال وجواب کی تکلیف ہوئی اور امامؐ[ؐ]
نے جواب پر یہ اضافہ بھی فرمایا :

”شراب انسان کو زنا، چوری، قتل اور شرک کی ہلن
لے جاتی ہے۔ شراب کے بڑتے تباخ تمام گناہوں پر بھپا
جاتے ہیں۔ جس طرح بڑکا درخت دوسرے تمام درختوں
کا حاطر کر لیتا ہے۔“

”الله تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات گناہکاروں کی
بخشش فرماتا ہے لیکن شرابی اس فیعن خداوندی سے محروم
رہتا ہے۔“^{۱۷}

”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے
میں دس آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے؛ شراب کے لیے انگروں
کو جمع کرنے والا، حفاظت کرنے والا، شراب پنچھوڑنے
 والا، شراب پینے والا، ساقی، شراب کا لٹھانے اور ایک جگہ
سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا، اسے اپنی تحویل میں رکھنے والا،
شراب کا تاجر، اس کا خریدار اور اس کے لیے سرمایہ کاری کرنے والا،
(یعنی وہ شخص انگروں کی کاشت اس لیے کرتا ہے کہاں

۱۷. وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۱۲ خ ۱۰

۱۸. وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۱۵ خ ۱۳

۱۹. وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۲۴ خ ۱

سے شراب حاصل کرے)

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ شراب حرام رہی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا کہ جس نے شر کے اس
سرچشمے کو حرام قرار نہ دیا ہے۔“^{۱۶}

حضرت امام حفظ صادق علیہ السلام کے ارشادات

”اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی میوثر فرمایا اس نے
اپنے دین کی تکمیل کے وقت شراب کو حرام کیا۔ یہ چیز ہمیشہ
حرام رہی ہے۔“^{۱۷}

معفضل نے کہا ہے کہ حضرت امام حفظ صادق علیہ السلام سے پوچھا : اللہ
تعالیٰ نے شراب کو کیوں حرام کیا؟ آپ نے فرمایا :
”اس کے خطرناک تباخ اور اس فساد کے سبب جو
اس سے پیدا ہوتا ہے۔ شرابی رعنی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
(سوچنے کجھنے) کافر اس سے چھین بیا جاتا ہے۔ اس کی
جو ان مردی ختم ہو جاتی ہے۔ بالآخر شراب اسے گناہ
قتل اور زنا پر جری اور بے باک بنا دیتی ہے اور کجھی تو وہ
ستی کے عالم میں اپنے مجرموں سے بھی اختلاط کر سمجھتا ہے

۱۶. مستدرک ابواب الاشربة المحرمة باب ۵ خ ۲

۱۷. وسائل ابواب الاشربة المحرمة باب ۹ خ ۱

سوائے نشر اور فتنے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔“ ۱۷

umar نے آنحضرت سے عرض کی : ایک شخص مسلمان ہے اور بارہ امام کا
ماننے والا ہے لیکن مکرات کا عادی ہے ۔ آپ نے فرمایا :
”umar ! اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا ۔“ ۱۸

”جو شخص شریابی کو اپنی بیٹی دیتا ہے وہ گوبایاں اولاد
دوزخ میں سمجھتا ہے۔“ ۱۹

امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :
”اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو ایک مرہ میں روکھ دیا اس
مرہ کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے پر ایک قفل لگا
ہوا ہے اور اس قفل کی کلید شراب ہے۔“ ۲۰

”جو لوگ دنیا میں شراب سے اپنی پیاس سمجھاتے ہیں
وہ پیاس سرت ہیں۔ اور پیاس سٹی سے اچھیں گے اور پیاس سے
دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔“ ۲۱

”نشر اور مشروب جو زیادہ سستی پیدا کرے یا کم بر جائے۔“

۱۷ وسائل ابواب الاشربة المحمرة باب ۹ خ ۲۵

۱۸ وسائل ابواب الاشربة المحمرة باب ۱۱ خ ۶

۱۹ وسائل ابواب الاشربة المحمرة باب ۱۲ خ ۳

۲۰ وسائل ابواب الاشربة المحمرة باب ۱۵ خ ۸

حرام ہے ۔“

راوی نے پوچھا :

”اگر زیادہ پیان میں نشر اور پیزیر (مسکر) کم مقدار
میں ملائیں تو کیا وہ حلال ہو گی؟“

آپ نے دوبارہ ہاتھ سے اشارہ کیا :

”نہیں، نہیں۔“ ۲۱

لوگوں نے پوچھا : کیا نبیذ (ایک قسم کی شراب) کو دو اکا جزو میں بجا
سکتا ہے؟“ آپ نے فرمایا :

”حرام سے شفاف کی امید رکھنا جائز نہیں ہے۔“ ۲۲

ایک شخص آنکھوں کے درد میں مبتلا تھا، شراب ملے ہوئے سرخ
سے اس کا علاج کیا گیا۔ حضرت نے فرمایا :

”یہ دو اپنید مردار کی امانت ہے اور حرف مجبوری کی صورت
میں قابلِ استعمال ہے۔“ ۲۳

لوگوں نے پوچھا : اگر کسی دسترخوان پر شراب بھی موجود ہے تو کیا اس
دسترخوان پر غذا کھانی جاسکتی ہے؟“ آپ نے فرمایا :

”اس دسترخوان پر کھانا حرام ہے۔“ ۲۴

۲۱ وسائل ابواب الاشربة المحمرة باب ۱۴ خ ۱

۲۲ وسائل ابواب الاشربة المحمرة باب ۲۰ خ ۵

۲۳ وسائل ابواب الاشربة المحمرة باب ۲۱ خ ۵

۲۴ وسائل ابواب الاشربة المحمرة باب ۳۳ خ ۱

حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے ارشادات

”میرے والد نے آخزی وقت فرمایا: ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں پہنچتی جو نماز کو ایک معمولی چیز سمجھے اور جو شخص مشروب کا عادری ہوگا اسے حوصلہ کوثر کے کنارے ہمارے حضورانے کی اجازت نہ ہوگی۔“ میں نے کہ ”ابا جان! کون سا مشروب؟“ فرمایا: ”جو کبھی مشروب مستقی پیدا کرے۔“

”اللہ تعالیٰ نے شراب کو کسی نام سے حرام نہیں کیا ہے بلکہ اس کے نتائج کے سبب حرام کیا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا انسجام شراب جیسا ہو وہ حرام ہے۔“

”فَقَاعُ (جو کا پانی) ایک طرح کی شراب ہے، او گ اسے چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔“

حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد

”اسلام میں بیلا شخص جس نے آب جو پیا وہ زیبد نہ خا۔

۱۷۔ وسائل ابواب الاستئنة الحرمۃ باب ۱۵ خ ۱

۱۸۔ وسائل ابواب الاستئنة الحرمۃ باب ۱۶ خ ۱

۱۹۔ وسائل ابواب الاستئنة الحرمۃ باب ۲۰ خ ۱

جب امام حسین علیہ السلام کا سر مرقد اس کے سامنے رکھا گیا وہ اس وقت آب جو پل رہا تھا اور دربار یوں کو سمجھی دے رہا تھا۔ جو شخص بھی ہمارا شعبہ ہے اسے آب جو سے پر ہیز کرنا چاہیے۔“

تسبیح

مسئول غور و فکر سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے چند حصے ہیں۔ ان کا ایک حصہ یہ بتاتا ہے کہ شراب یا کشش سے جو شرذہ تیار کیا جاتا ہے اسے خمر کہتے ہیں۔ جو حرام ہے۔
دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ فقاع (آب جو) جسے جو سے تیار کرتے ہیں، حرام ہے۔
تیسرا حصہ بتاتا ہے کہ ہر سیاں (ملکر) نہ شہ اور حرام ہے۔
چوتھا حصہ بتاتا ہے کہ ہرست کرنے والی چیز خواہ وہ سیاں ہو یا جامد حرام ہے۔

یعنی بعض روایات کا لفظ شراب کی حرمت بیان کرنے سے ہے اور بعض کا شرابی پر حد جاری کرنے، سزادینے یا لے قتل کرنے سے ہے۔ اور بعض کا آخر وی سزادے۔

ان روایات کے نقل کرنے کا مقصود صرف یہ رہا ہے کہ پڑھنے والا پڑھ آئے اور باز آجائے۔ اس لیے ہم نے انھیں ابواب وار اور ایک خاص ترتیب سے بیان نہیں کیا۔

زنا

بہت سی آیات اور احادیث اس منانی حفت عمل کی مذمت میں آئی ہیں :

ارش درب العزت ہے

”زناء کے قریب نہ جاؤ یہ ایک بے جیالی کا کام بُرا
اور زنا پسندیدہ طریقہ ہے۔“ لئے

”زنانی عورت اور زانی مرد ہر ایک کو سوکھ رے لگاؤ
اور دین خدا کے معاملہ میں ان سے کوئی رحم و نرمی رواز کھوٹا نہ

”زانی مرد سوائے زنانی عورت یا مشترک کے شادی نہ
کرے اور زانی عورت سوائے زانی مرد یا مشترک کے شادی
نہ کرے اور مومنین پر یہ حرام ہے۔“ تے

”(خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں) جو انسان کے سرو
کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو

لئے سورہ بنی اسرائیل ۱۶ آیت ۳۶

لئے سورہ نور ۲۳ آیت ۲

لئے سورہ نور ۲۴ آیت ۳

نا حق بلکہ نہیں کرتے اور نہ زنا کے مذکوب ہوتے ہیں۔ یہ
کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدله پائیگا قیامت کے روز
اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ بھیشہ ذلت
کے ساتھ پڑا رہے گا۔“ لئے

”اے بنی اسرائیل متحارے پاس مومن عورتیں بیعت
کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے
ساتھ کسی چیز کو شرکیے نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا ن
کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے انتہا پاؤں کے آگے
کوئی بہتان گھر کر نہ لایں گی اور کسی امر معروف میں متحاری
نا فرمائی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو۔“ لئے

توضیح :

یہ بات مستم بہے کہ مشترک اور اللہ کو حمچوڑ کر کسی اور خدا پر ایمان رکھنے والا
بھیشہ جہنم میں رہے گا۔
اسی طرح قاتل اور زانی اگر ان گناہوں کو جائز سمجھے اور خدا کے حرام کرنے کا
انکار کرے تو وہ بھیشہ جہنم میں رہے گا۔
البتہ اگر وہ حرمتِ عمل کو تسلیم کرتا ہو اور خود کو قفسوں وار جانتا ہو تو اس
کے لیے آخرت کا ابدی عذاب نہیں ہو گا۔
اور اگر موت سے پہلے دنیا میں توبہ کر لی اور اپنے گناہوں کی تلاشی کی تو اس

لئے سورہ فرقان ۲۵ آیت ۴۸

لئے سورہ محتسب ۴۰ آیت ۱۲

صورت میں وہ اپنے کسی جرم اور گناہ کے بدے آخزت میں عذاب نہیں پائے گا۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا:

”کھلے اور بچھے بڑے کام“ کے اللہ تعالیٰ نے جن کو قرآن میں حرام فزار دیا۔ ان میں سے ظاہر اور کھلے ہوئے گناہ اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرنا (کہ جو جاہلیت میں رواج تھا) اور باطن اور بچھپا ہوا گناہ زنا ہے۔“

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات

”زانی، زنا کے وقت ایمان سے خالی ہوتا ہے، شرابی شراب خوری کے وقت ایمان نہیں رکھتا، اسی طرح چوڑچوڑی کرتے وقت ایمان نہیں رکھتا۔“ اے

توضیح:

بہت سی روایات کے مطابق ان گناہوں کے کرتے وقت گناہ کرنے والے سے اس کی روح ایمان جدا ہو جاتی ہے اور بعد میں واپس آجائی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کی روح کا چہرہ جو اپنی باطنی عقیدت کی وجہ سے روشن ہوتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کے نور کی شعاعیں منور رکھتی ہیں اس پرندگارہ حالت میں ایک ظلمت کا پرده کچھ جاتا ہے اور یہ پرده اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ بد اعمالی کے اشارے زائل نہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور توبہ کی نیفیت پیدا نہ ہو جائے اور ظلمت و کدورت نہ دھل جائے۔

”زنات نگہستی لانا ہے اور گھروں کو سنان بنا دینا ہے۔“ ۳

”بین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں کرے گا اور ان کو پاک نہیں کرے گا اور انھیں (نگاہِ رحمت سے) نہیں دیکھے گا اور وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔“ ۱۱، بوڑھا زانی (۲) غلام بادشاہ (۳) مغلب حاجت مند۔“ ۳

(یعنی اس کا تکبر فرمان الہی اور اوامر کے مقابل ہے۔ اس میں عاجزی کی صفت نہیں اور وہ بے نیاز ہے مگر شر فال اور دولت مندوں کے مقابل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقابل ہے)

”جو عورت خود کو کسی مرد کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس کے ساتھ زنا کرے یا اسے پیار کرے یا اس کے ساتھ دل لگی اور مذاق کرے یا اس کے ساتھ کوئی اور بڑا کام کرے تو وہ عورت اس مرد کے برادر گناہ کار ہوگی۔ اگر اس کام میں جبر و اکراہ شامل ہو تو عورت کا گناہ بھی مرد کے سر ہو گا۔“ ۳

”جو شخص عمل قوم لوٹ کا مرکم کتاب ہوتا ہے یا یہ غیر انسانی عمل ام طور پر کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے تو قیامت کے دن

۳۔ وسائل ابواب النکاح الحرم باب اخ ۱۱-۱۳
۴۔ وسائل ابواب النکاح الحرم باب اخ ۸

وہ مردار سے زیادہ متفض بُرُ کے ساتھ محسور ہو گا۔ اس حد تک کہ اس کی نفرت انگیز لُوگوں کو تکلیف پہنچائے گی اور اسی حال میں وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے کوئی فدیہ یا جرم از قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے تمام اعمال مردوں کی قرار پاییں گے اور اس کا عذاب تمام دوزخیوں کے عذاب سے سخت ہو گا۔^{۱۷}

”لوگوں کے ساتھ نیکی کرو تو اک تحارے بنیتے تھے اے ساتھ نیکی کریں۔ لوگوں کے ناموس پر نگاہ نہ ڈالو تو اک تحاری ناموس آلو دہ نہ ہو۔“^{۱۸}

”میری امت کے لوگوں کے ہمینی ہونے کا بہت زیادہ سبب دواعضا ہیں جواندرے خالی ہیں۔“ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وہ دواعضا کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: فرج اور دین۔ اور حبنت میں پہنچنے کا بہت زیادہ ذریعہ تقویٰ اور حسن خلق پے ہے۔^{۱۹}

”کسی شخص کو زنا کے اس باب مہیا ہو جائیں۔ لیکن خدا سے ڈر کر اس سے احتراز کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر

۱۷ دسائل ابواب النکاح الحرم باب ۹ خ ۲

۱۸ دسائل ابواب النکاح الحرم باب ۳۱ خ ۹

۱۹ دسائل ابواب النکاح الحرم باب ۳۱ خ ۱۳

دوزخ کو حس ای فرمائے گا اور اسے قیامت کی بڑی پریشانی سے سخت دے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بر عکس اگر وہ اس گناہ کا مرتکب ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اسے دوزخ میں بھیک دے گا۔^{۲۰}

”جو شخص لوگوں کی ناموس میں خیانت کرتا ہے وہ تم میں سے نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔“^{۲۱}

”پانچ اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ ان میں سے ایک دو ہے جو ہمسایہ کی ناموس میں خیانت کرے۔“^{۲۲}

ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم سے پوچھا: ”گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے فرمایا: ”یہ کہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی کو شرک کرے۔“

میں نے کہا: ”اس کے بعد؟“ آپ نے فرمایا: ”اولاد کو افلas کے خوف سے قتل کرنا۔“

میں نے پوچھا: "اس کے بعد؟" آپ صلی اللہ علیہ و آر ہ وسلم نے فرمایا:
"ہسایہ کی ناموس پر تجاوز۔" ۱۷

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات

حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا:
"کیا میں تم خوب سب سے بڑے زنا کے بارے میں
پتاوں؟" ۱۸

لوگوں نے کہا: "وہ کون سا ہے؟" آپ نے فرمایا:
"یہ کہ کوئی عورت کسی اجنبی کو اپنے شوہر کے بستر پر
آنے کی اجازت دے اور نطفہ حرام سے ایک فرزند کو اپنی گود
میں لائے اور اس ناجائز بچے کو شوہر کی گردان پر ڈال دے
یہ ایسی عورت ہے جس سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کلام نہیں
فرمائے گا اور اس پر نظر نہیں ڈالے گا۔ اسے زنا سے پاک
نہیں کرے گا اور اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔" ۱۹

"اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبنی عنقرین ادمی بورٹھا زانی ہے۔" ۲۰

"کوئی غیرت مند شخص ہرگز زنا سے اپنا دامن آؤ دہی کرنا یا نہ

۱۷ مستدرک ابواب النکاح الحرم باب ۱ خ ۱۶

۱۸ وسائل ابواب النکاح الحرم باب ۲ خ ۲

۱۹ اکھے مستدرک ابواب النکاح الحرم باب ۱ خ ۱۶

"کوئی عقل مند جھوٹ نہیں کہتا اور کوئی مومن زنا
نہیں کرتا۔" ۲۱

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد

ایک شخص نے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا:
"میں حورتوں کے جال میں چپس گیا ہوں، ایک
روز زنا کرتا ہوں روس سے روزا پنے گناہ کے کفار سے
کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔"

آپ نے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ سے پاک خالص اطاعت
سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ تو نہ زنا کر اور نہ روزہ
رکھ۔" ۲۲

اس موقع پر امام محمد باقر علیہ السلام اسے ایک طرف لے گئے،
اس کا ہاتھ تھاما اور فرمایا:

"ابازنہ" (ابوزہ نذر کو کہتے ہیں، نذر کے
ساتھ یہ تشبیہ زنا کے بارے میں اس جیوان کی شہرت
کے سبب ہے) تو نے دوزخیوں کا پیش اختیار کر کھا
ہے اور طمع جنت کی رکھتا ہے۔" ۲۳

۲۱ مستدرک ابواب النکاح الحرم باب ۱ خ ۱۶

۲۲ وسائل ابواب النکاح الحرم باب ۱ خ ۱۶

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشادات

کتاب علی علیہ السلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”جب بھی میری وفات کے بعد زنا کو رواج حاصل ہوگا ناگہانی اموات میں انسانہ ہو جائے گا۔“ ۱

”فرج دشکم کی پارسائی سے بڑی کوئی عبادت نہیں یا ۲“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات

”زانی کو جوچہ سزا میں ملیں گی تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ دنیا کی سزا : چہرے کا نوزخم ہو جانا، افلاس جلد آنے والی موت ہے۔ آخرت کا عذاب : اللہ تعالیٰ کا غضب، حساب لینے میں سختی، اور ہمیشہ کا عذاب“ ۳

توضیح :

افلاس و تنگستی سے مراد، ایمانی اور اخلاقی افلاس ہے، یا پھر عمل صالح کے اعتبار سے افلاس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہونے والے فرائض کی ادائیگی میں مددگار نہ ہو۔ اور ممکن ہے اس سے مراد مالی حلال کے حصول سے تعلق

۱۔ دسائل ابواب النکاح الحرم باب ۱ خ ۲

۲۔ دسائل ابواب النکاح الحرم باب ۲۳ خ ۲

۳۔ دسائل ابواب النکاح الحرم باب ۱ خ ۸

رکھنے والا افلاس ہو، یہ سمجھی ممکن ہے کہ اس سے مراد چاروں فسم کے افلاس ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی :

”لوگوں کی عزت و ناموس پر تجاوز نہ کرو کہ انھیں تھماری عزت و ناموس پر تجاوز کا موقع مل جائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے بستر پر پیر رکھتا ہے، لوگ اس کے بستر پر پیر رکھیں گے۔ جو کچھ تو دوسروں کے ساتھ کرے گا دوسرے تیرے ساتھ وہی کریں گے۔“ ۴

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی صحیحی کی :

”زنائز کر کے تجھے میں اپنے انوارِ جمال کے مشاہدے سے روک دوں اور تجوہ پر آسمان کے دروازے بند کر دوں تاکہ تیری دعا ملکوتِ اعلیٰ تک نہ پہنچے۔“ ۵

حضرت عیینی علیہ السلام نے اپنے حواریین (انسحاب خاص) سے فرمایا :

”موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا جھبٹی فسم نہ کھاؤ لیکن میں کہتا ہوں کہ تم اللہ کی قسم بالکل ہی نہ کھاؤ نخواہ وہ سمجھی ہو یا جھبٹی۔“

لوگوں نے درخواست کی کچھ اور نصیحت فرمائی : فرمایا :

”موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا۔ زنانہ کرو۔ میں تم سے

کہتا ہوں کہ دل میں زنا کا خیال تک نہ لاؤ، کیونکہ بِرخیال ایک خوبصورت نقش و نگار سے بھرے محل کے اندر دھوائی اٹھانے کے ماندہ ہے۔ بلاشبہ اس سے محل میں آگ نہیں لگے گی لیکن محل کی چمک دمک اور صفائی برداہ ہو جائے گی۔“ اے آنحضرت سے ایک محدث پوچھا:

”زنا کی حرمت کی علت کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”اس سے فاد برپا ہوتے ہیں، وراشت کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، نسب کے رشتہ ٹوٹ جاتے ہیں، عورت کو اپنی اولاد کے باپ کا پتہ نہیں چلتا۔ پچھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے، قربت اور رشتہ داری باقی نہیں رہتی، رشتہ داری کے رابطے بالکلیہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک بھی خاندان کے افراد باہمی ہمدردی و محبت اور احسان شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔“ اے

ایک اعرابی سینگیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رضیحہت کی درخواست کی:

آپ نے فرمایا:

۱۔ وسائل ابواب النکاح المحرم باب ۱ خ ۱۵
۲۔ وسائل ابواب النکاح المحرم باب ۲ خ ۱۵
۳۔ مستدرک ابواب النکاح المحرم باب ۲ خ ۲
۴۔ مستدرک ابواب النکاح المحرم باب ۱ خ ۱۲

”اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو۔“ اے

”یعنی قسم کے اشخاص قیامت کے دن حساب کے ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ کی پیاہ میں ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے کبھی زنا کا خیال نکیا ہو، دوسرے وہ جس نے اپنے مال کو ربا (سود) سے گلو دنکیا ہو، اور تیسرا وہ جس کا واسطہ زنا یا ربا سے نہ ہوا ہو۔“ اے

”جو شخص کسی عورت سے بالجبر زنا کرے اسے ہلاک کر دینا چاہیے البتہ عورت کی چونکہ اس کام میں مرمنی شامل نہیں ہے اس کی کوئی سزا نہ ہوگی۔“ اے

”اگر لوگ ناجرم عورت مرد کو ایک لمحات کے اندر بھیجیں (اور زنا ثابت نہ ہو) تو ہر ایک کو ۹۹ درے لگانے چاہیں یعنی حد زنا سے ایک درا کم۔“ اے

حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا ارشاد

”زنا سے پرہیز کرو کہ یہ روزی کو گھٹا تابے اور دین

- ۱۔ وسائل ابواب النکاح المحرم باب ۲۱ خ ۱۵
- ۲۔ وسائل ابواب النکاح المحرم باب ۲۱ خ ۱۵
- ۳۔ مستدرک ابواب النکاح المحرم باب ۲ خ ۲
- ۴۔ مستدرک ابواب النکاح المحرم باب ۱ خ ۱۲

کو برپا در کرتا ہے۔ ”^{۱۷}

حضرت امام رضا علیہ السلام کے ارشادات

محمد بن سنان کے سوالات کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے زنا کو اس لیے حرام کیا کہ وہ فساد کا ذریعہ ہے۔ قتل نفس کا سبب نہ تباہے انساب کے رشتے کو برپا در کرتا ہے۔ بیچے تربیت کے بغیر بڑے ہوتے ہیں۔ وہاں کے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اور یہ عمل کچھ دوسرے فساد بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔“ ^{۱۸}

”اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے۔ کیون کہ یہ خاندان و شب کے رشتے کو جو انسانی زندگی کی نیاز میں درہم برہم کرتا ہے (نطفہ کو جو بقاۓ شل کا ذریعہ ہے اسے بے ثمر کرتا ہے) اور نطفہ کو معشل کرنا گناہ ہے۔“ ^{۱۹}

”زنا، روسیا، اور افلاس کا موجب ہے۔ خُرُوقِ نما کرتا ہے۔ روزی کو برپا در کرتا ہے۔ دل سے نور اور پاکیزگی ختم کرتا ہے خدا کے غنیب کو زندگی کر دیتا ہے۔“ ^{۲۰}

ختم شد الحمد لله رب العالمين ۲۹ ماه صیام ۱۴۳۶ھ

۱۷۔ الکافی باب الزنا خ ۲

۱۸۔ وسائل ابواب الشکح الحرم باب ۱ خ ۱۵

۱۹۔ مستدرک ابواب الشکح الحرم باب ۱ خ ۹

۲۰۔ مستدرک ابواب الشکح الحرم باب ۱ خ ۱۰

کسی قوم کی قدر و قیمت اور خدمات جانے کا پیمانہ اُسکی تصانیف و تالیفات ہیں

دِینِ اسلام کی تاریخ میں اس کی تالیفات

- مذہبیت و کیوں زم
- عوامی حکومت یا ولایت فقیہ
- آئین و اہمیت
- نجف ال بلاغہ سے چند منتخب نصیحتیں
- جواب ۲۰
- علمی لوگوں کی کامیابی کے راز
- حضرت محمد
- حضرت نافع
- ہمارا پیام
- ازمائش
- حضرات حسنین
- اہل بیت کی نزدیگ (مقامِ کنہہ اہل بیت نیجہ)
- حضرت امام زین العابدین
- صدیق حضرت سجاد
- امرتی کے خلاف ائمہ اہل بیت کی جدوجہد
- عزماواری - احیا امر امرتی
- تقیہ عاشورا
- انقلاب حسین
- حسین شناسی
- پیام شہیدان
- عاشورا اور خرابت
- عورت پرنسے کی آنکوشیں
- آسان مسائل
- اسلامی اقدام سکل اہل بیت لی روشنی میں
- دعائے افتتاح
- کتاب المون
- درس قرآن
- مکتبہ ثقیع اور شرکان
- مذہب اہل بیت
- فلسفہ امامت
- تعلیم دین سادہ زبان میں (چار جلد)
- آسان عقائد (دو جلد)
- شیعیت کا افناز کب اور کیسے
- حضرت علیؑ

کتب ایضاً مذکورہ ایضاً مذکورہ

مذکورہ ایضاً مذکورہ



MAMODALY ALIBAI JUNDARJEE

Marchandises Générales

Coutelleries

TSARALALANA-ANTANANARIVO

SOMASOC
ANTANANARIVO
(MADAGASCAR)

